

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Tuesday, March 8, 1988

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall, (Parliament House), Islamabad, at 6.30 of the clock in the evening, with Mr. Deputy Chairman (Malik Muhammad Ali Khan) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْبَعُ حَشِيَّةَ
وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ
أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Tuesday, March 8, 1988

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall, (Parliament House), Islamabad, at 6.30 of the clock in the evening, with Mr. Deputy Chairman (Malik Muhammad Ali Khan) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْبَعُ حَشِيَّةَ
وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ
أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ ۝ (سورہ الاعراف)

ترجمہ: بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان اور زمین پیدا کیے، پھر عرش پر جلوہ گرہ ہوا۔ (اس تخت حکومت، اس عزت و جلال کے تخت پر رونق افروز ہوا جو ہر مادی کیفیت سے پاک ہے اور اللہ اس پر محیط ہے وہ اللہ پر محیط نہیں یہ اسی کا کام ہے کہ، رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے (رات پر دن کی روشنی چھا جاتی ہے یہاں دونوں صورتیں ممکن ہیں یعنی دن کو روشنی سے رات کو، یا رات کی تاریکی سے دن کو، ڈھانپا جاتا ہے اس طرح کہ وہ (دن ہو یا رات) اس کے پیچھے دوڑتی آتی ہے (ایک دوسرے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی نور ہے، کبھی ظلمت، کبھی تنجلیاں ہیں اور کبھی حجاب اور (اسی نے) سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے حکم کے تحت مسخر (اور فرمانبردار بنا رکھا ہے) سن لو اسی کا کام پیدا کرنا اور حکم دینا ہے۔ اللہ جو سارے جہان کا رب ہے بڑی برکت والا ہے (جملہ خیر و برکت اسی کی با برکت ذات سے ظہور پذیر ہے۔)

(لوگو) اپنے پروردگار کو (نہایت) عاجزی سے (گڑگڑا کر) اور چپکے چپکے پکارا کرو۔ بلاشبہ اس کو حد سے تجاوز کرنے والے پسند نہیں آتے (اس سے وہ مانگو جو تمہارے مناسب حال ہے)

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Deputy Chairman : Question Hour.

سوال نمبر ۱ پر و فیئر خورشید احمد صاحب۔

REFUND OF INSURANCE CONTRIBUTIONS

1. *Prof. Khurshid Ahmad: Will the Minister for Labour, Manpower and Overseas Pakistanis be pleased to state:

(a) what is the latest position about the refund of insurance contributions paid by Pakistani labour in Saudi Arabia to the General Organization for Social Insurance;

(b) is the Government pursuing the matter with the GOSI to make concrete arrangements for the payment of insurance fund to employees who have returned to Pakistan during the last few years; and

(c) has the Government negotiated with the Saudi Government to return to the insured persons not only their own contribution but also the profits earned on those contributions by the GOSI for the period they held the funds?

Mr. Shah Mohammad Pasha Khuro (read by Mian Abdus Sattar Lalika):

(a) The case of refund of social insurance deductions to the expatriate workers is reportedly under consideration of the Saudi Government.

(b) The Embassy of Pakistan in Saudi Arabia is in constant touch with the concerned authorities in Saudi Arabia in this regard.

(c) This matter can be taken up with the Saudi Government after a final decision relating to the refund of insurance money to overseas workers is taken by that Government.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال .

پروفیسر خورشید احمد: کیا محترم وزیر صاحب یہ بتا سکیں گے کہ سعودی عرب کے اخبارات میں پچھلے کئی ماہ سے یہ خبر آرہی ہے کہ حکومت نے اس معاملے میں پالیسی بنالی ہے اور اب ڈسٹری بیوشن شروع ہوگئے ہیں لیکن آپ کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں سعودی حکومت نے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے میں نے اسی لیے چاہا تھا کہ آپ latest پوزیشن بتائیں غالباً ایسی سے آپ رابطہ نہیں کر سکے۔

میال عبدالستار لالیکا: سر! گزارش یہ ہے کہ جہاں تک سوشل انشورنس کمپنیز کا معاملہ ہے تو انہوں نے اصولی طور پر یہ پالیسی بنا لی ہے اور یہ رائے ڈگری کے ذریعے منسوخ کی گئی تھی اس لیے انہیں دوبارہ یہ معاملہ اپنی کابینہ کے پاس لے جانا پڑے گا اور کابینہ کی رائے کے بعد اس پر پھر حتمی فیصلہ ہوگا۔

پروفیسر خورشید احمد: کیا وزیر موصوف اس سے واقف ہیں کہ اس اسکیم کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ملازمین کی پنشن کا ہے۔ اور دوسرے پہلو کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے دس سال تک اپنی بلازمت مکمل نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے جو فنڈز جمع ہوئے ہیں وہ ان کو واپس ملنے چاہئیں۔ یہ دونوں الگ الگ مسائل ہیں اور حکومت کو ان دونوں مسائل کو حل کرنا چاہیے۔

میال عبدالستار لالیکا: سر! جہاں تک پنشن کا سوال ہے تو ان کے قانون کے مطابق جو بھی آدمی ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے گا تو اسے وہ پنشن دیں گے اور ہمارے جو لوگ یہاں سے جاتے تھے

وہ دو یا تین سال کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے جاتے تھے ہمارے سفر نے اس سے قبل ستمبر ۸۵ء میں بھی یہ مسئلہ ان کے سامنے اٹھایا تھا کہ ہمارے جو لوگ آتے ہیں وہ تھوڑے عرصے کے لیے یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں اس لیے ہمارے کارکنان کو اس قانون سے مستثنیٰ قرار دیا جائے لیکن جب یٹم مارچ ۸۷ء کو ان کا یہ فرمان جاری ہوا تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اس میں ۵ فیصد کارکن اپنی تنخواہ میں سے Contribute کرتے تھے اور ۵ فیصد ایمپلائرز Contribute کرتا تھا۔ ہم ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو کارکن پانچ فیصد اپنی تنخواہ سے ادا کرتے تھے اور جو آٹھ فیصد ایمپلائرز دیتا تھا، یہ ہمارے کارکنوں کو واپس کیا جائے۔

پروفیسر خورشید احمد : کیا وزیر موصوف اس امر پر غور کریں گے جن افراد کا کم سے کم عد مقرر نہیں ہوئی ہے ۱۰ سال یا کچھ اور جو قانون میں مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی ان سے مطالبہ کیا جائے کہ نہ صرف کارکنوں کا کنٹریبیوشن واپس کیا جائے بلکہ اس پر جو منافع کمپنی نے حاصل کیا ہے وہ ادا کیا جائے اور انہی خطوط پر پاکستانیوں نے سعودی عرب کے انگریزی اور عرب پریس کو خطوط لکھے ہیں۔ ایڈیٹریلز آئے ہیں، اگر ان تمام معاملات کو آپ Pursue کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستانی مزدوروں کے لیے اور خود پاکستان کے لیے بہت مفید ہوگا اس طرح سے کافی مقدار میں ہمیں فارن ایکس چینج حاصل ہوگا۔

میال عبدالستار لالیکا : اس کنٹریبیوشن پر جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے مذاکرات کا ایک حصہ ہے اور انٹرنیشنل

[Mian Abdul Sattar Lalika].

جب ان کی کامیابی سے فیصلہ ہوگا تو ہمارے کارکنوں کو ان کا ضرور حصہ ملے گا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : اگلا سوال، جناب شاد محمد خان
سوال نمبر ۲،

POST OF ADDITIONAL SECRETARIES

2. *Mr. Shad Mohammad Khan : Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are 94 posts of Additional Secretaries in BPS-21 or equivalent in the Secretariat Group :

(b) their province-wise break-up : and

(c) the number of these posts held by the officers belonging to NWFP with their place of domicile ?

Rana Naeem Mahmud Khan : (a) The number is 95.

(b) The province-wise break-up of these officers is as under :—

Punjab	Sind (U)	Sind(R)	N.W.F.P.	Baluchistan	Total
60	13	9	11	2	95

(c) Number of the posts held by the Officers belonging to N.W.F.P. with place of domicile is as under :—

S. No.	Name & Designation	Place of domicile
1.	Mr. Mohammad Ibrahim Khan Khalil, Managing Director, Federal Bank for Cooperatives, Islamabad.	Peshawar
2.	Mr. Sajjadul Hasan, Addl. Secretary, Parliamentary Affairs Division, Islamabad.	Peshawar
3.	Syed Imran Shah, Chairman Employees Old Age Benefits Institute, Karachi.	Mansehra.
4.	Mr. Sadiq Sayeed Khan, Chairman, Ghee Corporation of Pakistan, Lahore.	Abbottabad
5.	Malik Asrar Ahmad Khan, Member Central Board of Revenue, Islamabad.	Peshawar
6.	Mr. Abdul Hameed Khan, Additional Secretary, Cabinet Division, Rawalpindi.	Peshawar
7.	Mr. Imtiaz Ahmad Sahibzada, Addl. Secretary/Incharge, Local Govt. Rural Development Division, Islamabad.	Mardan
8.	Dr. Ghulam Mohammad Samdani, Director (Research), Pakistan Administrative Staff College, Lahore.	Mardan.
9.	Mr. Tewfiq Fehmi, Additional Secretary, Cabinet Division, Rawalpindi.	Peshawar
10.	Mr. Mohammad Akram Khan, Addl. Secretary, M/o Water and Power, Islamabad.	Peshawar
11.	Mr. Altaur Rehman Khan, Member, Federal Public Service Commission, Islamabad.	Peshawar.

Mr. Shad Muhammad Khan : Supplementary question Sir. Is it according to the quota fixed for NWFP, with merit or without merit, the officers shown in Part (b) Sir?

Rana Naeem Mahmud Khan : Mr. Chairman. The quota system is only applied at the time of enrolment or at the time of recruitment or at the time of induction, Sir. The quota system is not applicable to officers as far as promotions are concerned and since grade 21 is attained through promotion and also through direct induction, therefore, the quotas are not applicable. So, it is an irrelevant question.

Mr. Shad Mohammad Khan : Supplementary question in this respect : At serial No. 9, an Officer, Tewfiq Fehmi's domicile is shown in Peshawar; will you tell me Sir, where does the officer actually reside, permanently?

Rana Naeem Mahmud Khan : At the moment in Islamabad, Sir, because he is serving the Federal Government.

Mr. Shad Mohammad Khan : No, Sir, it is a violation. So, I must demand here on the floor of the House, whether the Government is prepared to enquire into the genuineness of his domicile?

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, the question of domicile is decided and checked at the time when the citizens of Pakistan apply for these jobs. It is, I think, very unfair for me to commit here that after a lapse of, perhaps, more than fifty years or twenty years, a new fresh enquiry should be conducted into the genuineness of documents of a senior government official.

Mr. Shad Mohammad Khan : Supplementary question, Sir. It is not the question of seniority. I am asking about the violation of the service quota for NWFP. It has been violated purposely and the officers of NWFP have been ignored, the right persons should be inducted in the service.

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, this becomes rather a historic matter whether at that time, so many years ago, a violation did take place or not. Sir, I don't know. As far as our Government is concerned, Government of Muhammad Khan Junejo is concerned, I can commit that no violation of quotas or the usurpation of anybody's rights will take place.

Mr. Deputy Chairman : Next question NO. 3, Shad Muhammad Khan.

OFFICERS BPS - 22 FROM N.W.F.P.

3. *Mr. Shad Mohammad Khan : Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are 49 posts of BPS-22 as shown in gradation list of the Secretariat Group published in November, 1987; and

(b) the number of these posts held by officers from NWFP indicating also their home districts ?

Rana Naeem Mahmud Khan : (a) Yes.

(b) Three.

Names of the officers from NWFP indicating their home districts are given at **Appendix I.**

Appendix I

NAMES OF OFFICERS FROM N.W.F.P. (BPS-22)

S. No.	Name of the Officer.	Home district
1.	Mr. Fazal-ur-Rehman Khan Secretary, M/o Health, Special Education and Social Welfare, Islamabad.	Peshawar.
2.	Mr. Jawaid Ahmad Mirza, Secretary, M/o Labour, Manpower and Overseas Pakistanis, Islamabad.	D.I. Khan
3.	Mr. Bashir Ahmad, Secretary, M/o Petroleum & Natural Resources, Islamabad.	Manshra

جناب عبدالرحیم میردادخیل : کیا وزیر محترم ارشد فرمائیں گے کہ بلوچستان سے جن دو حضرات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام کیا ہیں ۔

Rana Naeem Mahmud Khan : I am sorry, Sir. I did not understand the question.

Mr. Deputy Chairman : Could you tell him the names of officers from Baluchistan?

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, the question was regarding the North West Frontier Province.

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس کے لیے فریش نوٹس درکار ہوگا۔

جناب عبدالرحیم میردادخیل : صرف دو اشخاص کے نام ہی بتانے ہیں ۔ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے ۔ بہر حال ... میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کوٹہ میں اضافہ کرنے کا امکان ہے کیونکہ سرحد سے ۱۱ اور سندھ سے ۲۲ ہیں ۔ اور بلوچستان سے صرف دو ہیں ۔

Rana Naeem Mahmud Khan : I am sorry Sir. I thought, we were on the next question.

Mr. Deputy Chairman : It is a supplementary question.

Rana Naeem Mahmud Khan : On question No. 2 Sir, or No. 3.

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی ، سوال نمبر ۲ پر ۔

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, as far as increasing the number of officers from any province is concerned, it will depend on their suitability and their own ability to be promoted into this grade. Sir, there is no administrative action required on which I could comment.

Mr. Deputy Chairman : Alright, no supplementary question. Question No. 4.

APUG OFFICERS PROMOTED TO BPS - 21 SINCE JAN 1986

4. ***Mr. Shad Mohammad Khan :** Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state the total number of the APUG officers from the Secretariat group promoted to BPS-21 since January, 1986 indicating also their names and place of domicile with province-wise breakup ?

Rana Naeem Mahmud Khan : Since January, 1986, 34 officers of Sectt. Group have been promoted as Additional Secretaries (BPS-21). Their names and place of domicile with province-wise breakup is submitted at Appendix-II.

Appendix II

NAMES OF THE OFFICERS OF APUG (SECRETARIAT GROUP),
ADDITIONAL SECRETARIES IN THE SECRETARIAT GROUP SINCE
JANUARY, 1986, WITH PLACE OF DOMICILE AND PROVINCE-
WISE BREAKUP.

S. No.	Name of the officer	Domicile
1.	Mr. Khalid Muhmood Chima	Punjab
2.	Mr. Marghub Ahmed	Punjab
3.	Mr. Ejaz Ahmed Faruqui	Punjab
4.	Syed Akhlaque Hussain	Punjab
5.	Mr. Ehsanul Haq	Punjab
6.	Mr. Muhammad Lutfullah	Punjab
7.	Mr. M.G. Hassan	Sind/Urban
8.	Mr. M.A. Beg.	Punjab
9.	Mr. Ang. Abbasi	Sind/Rural

S. No.	Name of the officer	Domicile
10.	Mr. Fateh Khan Khajjak	Baluchistan
11.	Mr. M.M. Usmani	Sind/Urban.
12.	Mr. M.A. Bari	Punjab
13.	Mr. Qamar Sardar Khan	Punjab
14.	Mr. Inemul Haq	Punjab
15.	Mr. Amanullah Khan	Punjab
16.	Dr. Mohammad Afzal	Punjab
17.	Mr. Ijaz Ahmed	Punjab
18.	Sheikh Abdur Rauf	Punjab
19.	Mr. Mahboob Ahmed	Punjab
20.	Mr. Mohsin Kamal	Punjab
21.	Mr. Manzoor-ul-Hasan	Sind (Rural)
22.	Mr. Mohammad Saeed Qureshi	Punjab
23.	Mr. M.A. Jabbar	Sind/Urban
24.	Mr. Javed Tafat	Punjab
25.	Mr. Nazim Hussain Rana	Punjab
26.	Mr. Ashique Siddiqui	Sind/Rural
27.	Syed Irtaza Hussain Zaidi	N.W.F.P.
28.	Dr. Ghulam Mohammad Semdani	Punjab
29.	Mr. Salanuddin Qureshi	Sind/Urban
30.	Mr. Mohammad Ahmed Sadick	Punjab
31.	Mr. Abdul Karim Lodhi	Sind/Urban
32.	Mr. Vaqar Rustam Bukhsi	Punjab
33.	Mr. Tewfiq Fehmi	N.W.F.P.
34.	Mr. A.G. Mufti (expired on 14-7-1987)	Punjab

II. Province-wise Breakup

Punjab	23
Sind (U)	5
Sind (R)	3
N.W.F.P.	2
Baluchistan	1

Total

Mr. Shad Muhammad Khan : Supplementary Question. Is it a fact Sir, that at serial No. 27 and 33 — the two officers, Syed Irtaza Hussain Zaidi and Mr. Tewfiq Fehmi are not of NWFP domicile and they have been inducted against the quota of NWFP?

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, as far as we know they are of the NWFP domicile.

Mr. Shad Muhammad Khan : The question does not say this Sir. I want assurance from you about the genuineness of their documents, if they are not genuine then what action you are going to take in this respect?

Rana Naeem Mahmud Khan : I am not about to make a commitment here, in response to a question, on digging up old records and verifying the actual position of documents which were issued by a Provincial Government at the time of induction.

Mr. Shad Muhammad Khan : Are you prepared to conduct an inquiry or not?

Rana Naeem Mahmud Khan : No, Sir.

Mr. Shad Muhammad Khan : Why?

Rana Naeem Mahmud Khan : Because I don't think it is right, Sir.

Mr. Deputy Chairman : Next Question No. 5, Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel.

TRANSPORT FACILITIES FOR A.P.P. EMPLOYEES

5. ***Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel :** Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state why A.P.P. employees are not provided with the facility of transport at various stations like Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar, Faisalabad and Hyderabad?

Kazi Abdul Majid Abid (read by Mr. Wasim Sajjad) : APP does not have the resources to provide transport to its employees at every station. Despite its meagre resources, the Agency provides transport for official work at Karachi, Lahore and Islamabad, which are its busiest stations. It also pays General Transport Allowance, Local Travelling Allowance and Car/Motor Cycle/Scooter/Bicycle Maintenance Allowance, to provide ease in the mobility of its employees.

2. In consideration of the financial position of APP, Government subsidizes the Agency to the extent of Rs. 25 million annually.

جناب عبدالرحیم میر دادخیل : پہلے تو میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کو میں وزیر قانون کہوں یا وزیر اطلاعات کہوں . . . بہر حال کیا وزیر قانون یہ بیان فرمائیں گے کہ اس وقت کار، موٹر سائیکل، بائیسکل، سکورٹ کی مرمت کے لیے جو الاؤنس دیا جاتا ہے یہ کتنا فرام کیا جا رہا ہے۔

جناب وسیم سجاد : مناسب یہ ہو گا کہ یہ مجھے وزیر قانون برائے وزیر اطلاعات کہہ لیں اس وقت ہم جو الاؤنس دے رہے ہیں وہ کار کے لیے ۲۵۰ روپے، موٹر سائیکل، سکورٹ کے لیے ۱۲۵ روپے اور بائیسکل کے لیے ۴۰ روپیہ مانا ہے۔

جناب عبدالرحیم میر دادخیل : کیا وزیر صاحب یہ بیان فرمائیں گے کہ اس میں اضافہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، اگر ارادہ ہے تو کب تک کیا جائے گا۔

جناب وسیم سجاد : جناب! فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں، لیکن چونکہ رحیم دادخیل صاحب نے فرمایا ہے اس پر ہم ضرور غور کریں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : کوئی اور ضمنی سوال - نہیں - اگلا سوال جناب عبدالرحیم میرداد خیل صاحب -

UNIFORM ALLOWANCE FOR POLICE PERSONNEL

6. *Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel: Will the Minister for Interior be pleased to state whether any 'uniform allowance' is paid to police personnel, if so, its amount, and if not, the reason therefor?

Malik Nasim Ahmad Aheer (read by Mr. Wasim Sajjad) : (1) Uniform allowance is paid to gazetted officers only on the following rates :

- | | | | |
|--|----|----|----------|
| (i) On initial appointment as ASP/DSP | .. | .. | Rs. 3000 |
| (ii) Summer Uniform Allowance after every three years. | .. | .. | Rs. 600 |
| (iii) Winter Uniform Allowance after every seven years | .. | .. | Rs. 1500 |
| (iv) On promotion to DSP from the rank of Inspector | .. | .. | Rs. 500 |

(2) Uniform washing allowance given to Constables and Head-Constables :

Constables	--	--	..	Rs. 25 per month.
In Islamabad	Rs. 30 per month.

Gazetted officer and upper subordinates (ASI, SI, Inspector) are not entitled to washing allowance.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال :

جناب عبدالرحیم میرداد خیل : کیا وزیر صاحب جو اپنی ذات میں انجن ہیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت کانٹیبول کو جو ۲۵ روپے ماہانہ اور اسلام آباد میں ۳۰ روپے الاؤنس دیا جاتا ہے اے ایس آئی کا گریڈ کیا ہے ؟

جناب وسیم سجاد : جناب والا ! میں اس وقت یہ تو نہیں بنا سکوں گا کہ اے ایس آئی کا گریڈ کیا ہے لیکن سترہ گریڈ سے کم ہے۔

جناب عبدالرحیم میردادخیل : سترہ سے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کم ہے وہ بڑا ایس پی تو نہیں ہے لیکن اس کا گریڈ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا ہے ؟

جناب وسیم سجاد : جناب میں اس کے متعلق اطلاعات لے کر ان کو فراہم کر دوں گا۔

پروفیسر خورشید احمد : یہ جو رقم مقرر ہوئی ہیں ۶۰۰ روپے تین سال میں اور /- ۱۵۰۰ روپے سات سال میں - یہ originally کب مقرر ہوئی تھیں اور کیا الفلیشن اور حقیقی ضروریات ان سے کوئی مناسبت رکھتی ہیں۔

Mr. Wasim Sajjad : Sir, these were fixed sometime ago. The question whether they are adequate keeping in view the present rate of inflation, I think that has to be considered in the general context as to what are the resources of this country and whether we can meet each and every demand. Of course, Sir, realistically speaking all these are inadequate but, I hope, that our country will achieve progress to an extent where we can meet all the requirements of all the people and then Sir, I hope, such questions will not arise.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال ؟
جناب عبدالرحیم میردادخیل : کیا وزیر متعلقہ یہ بیان فرمائیں گے کہ اے ایس آئی اور اسپیکر کو واشنگ الاؤنس نہیں دیا جاتا، تو کیا ان کی وردیاں میل نہیں ہوتیں اس لئے ان کو نہیں دیا جاتا ؟

جناب وسیم سجاد : جناب والا ! وہ چونکہ انٹر برٹس ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں غالباً وہ صابن، پانی وغیرہ کا خرچہ اپنی

تخواہ سے پورا کر لیتے ہیں۔

جناب عبدالرحیم میر داد خیل : کس طرح وہ اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا آفسر ہے وہ اس سے نیچے طبقے سے خود کو اوپر لانا چاہتا ہے تو ایسا کرنے کے لیے لازماً وہ دوسرے جرائم میں ملوث ہو گا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کرپشن ہے۔

جناب وسیم سجاد : جناب والا! ہمارا اس وقت مقصد یہ ہے کہ ان کی وردیاں صاف ہوں تو اللہ کو شش یہی کی جائے گی کہ وردیاں صاف ہوں اور اسی قسم کی شکایات وصول نہیں ہوئیں کہ وردی اس لیے گندی ہے کہ آپ نے انہیں واشنگ الائنس نہیں دیا۔

آواز : چاہے وہ رشوت لے کر یہ ضرورت پوری کرے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی اگلا سوال نمبر ۷ جناب عبدالرحیم میر داد خیل صاحب۔

CRICKET MATCH AND INTERVAL FOR JUMA PRAYERS

7. *Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel: Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state whether it is a fact that on Friday the 16th of October, 1987 a Cricket match was telecast from all PTV centres and only half an hour break between 12.30 p.m. to 1.00 p.m. was observed; if so, the reasons for giving such a wide projection to cricket ignoring thereby the importance of Juma-tul-Mubarak?

Qazi Abdul Majid Abid (read by Mr. Wasim Sajjad) : It is a fact that on Friday 16th October, 1987 there was a break of about half an hour for "Juma-tul-Mubarik" prayers during a Cricket Match telecast by PTV.

Notice has already been taken of the lapse and clear directives have been sent out to all concerned to provide longer and appropriate intervals in future to enable the faithfuls to give full thought and concentration to Juma-tul-Mubarik prayers.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال ؛
جناب عبدالرحیم میرداد خیل : کیا وزیر محترم یہ بیان فرمائیے گے کہ کیا اتنے بڑے بلے عرصے تک یعنی پورا دن اور کئی سہفتوں تک مسلسل کرکٹ کا میچ ٹی وی پر دکھانے کی بجائے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہر گھنٹے کے بعد صرف اطلاعات فراہم کر دی جائیں تاکہ اتنا وقت اور پیسے بچ سکیں ؟

جناب وسیم سجاد : میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں قوم کو انتہائی دلچسپی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تجویز مناسب نہیں ہے۔ بہر حال نماز جمعہ کے لئے وقفہ کرنا بہت مناسب تجویز ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ زیادہ وقفہ دیا جائے تاکہ میرداد خیل صاحب آرام سے نماز پڑھ سکیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال ؛
جناب عبدالرحیم میرداد خیل : جناب چیئرمین ! میں وزیر محترم سے سوال کروں گا کہ عوام کو کرکٹ میچ سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ عوام کو اپنی بنیادی سہولتوں سے دلچسپی ہے کہ ان کو بنیادی سہولتیں ملیں۔ اس سے دلچسپی تو صرف وزراء کو اور بڑے بڑے سرمایہ داروں

کو ہو سکتی ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : یہ ضمنی سوال نہیں بنتا۔
جناب وسیم سجاد : جناب! پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ
 صحت مند تفریح جو ہے یہ عوام کی ایک بنیادی ضرورت ہے
 اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن بہت اہم کردار
 ادا کر رہا ہے کہ ایک صحت مند اور اچھی قسم کی تفریح عوام کے لیے
 میسر کرتا ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : کوئی اور ضمنی سوال، میرا داد
 خیل صاحب۔

جناب عبدالرحیم میرداد خیل : کیا وزیر محترم یہ بتانا
 پسند فرمائیں گے کہ کرکٹ پیچ کے دوران ٹی وی کے محکمے کا اس
 پر کتنا خرچہ آتا ہے ؟

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس کے لیے فریش نوٹس دیں
جناب وسیم سجاد : جناب زیادہ نہیں آتا۔
جناب عبدالرحیم میرداد خیل : بتائیں کتنا آتا ہے، زیادہ نہیں
 آتا سے کیا مطلب ؟

جناب وسیم سجاد : جناب فریش نوٹس ؟

جناب عبدالرحیم میرداد خیل : لاجواب وزیر ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : اگلا سوال نمبر - مولانا کوثر

نیازی صاحب -

[Mr. Deputy Chairman]

BENEVOLENT FUND AND ITS UTILIZATION

8. *Maulana Kausar Niazi : Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state :

(a) the total amount deposited so far with the Government under the head of Benevolent Fund :

(b) the total amount, utilized out of it indicating also the purpose thereof : and

(c) whether any scheme has been prepared by the Government for the better utilization of this fund on the welfare of Government employees ; if so, brief description thereof ?

Rana Naeem Mahmood Khan : (a) Rs. 276 million has been deposited from April, 1969 to June, 1987 by Government employees.

(b) Rs. 224.22 million has been disbursed to government employees and the families of deceased employees. Rs. 19.06 million has been spent to meet administrative expenses upto June, 1987.

(c) The present rate of contribution is hardly enough to meet the existing expenditure under the Act. To increase the benefits there shall have to be a corresponding increase in the contribution, which is under active consideration.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال ؟ مولانا کوشر نیازی صاحب -

مولانا کوشر نیازی : جناب والا! کیا یہ بتایا جائے گا کہ انتظامی اخراجات پر ۱۹۸۶ میں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ان انتظامی اخراجات کو کم کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے؟

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, the Government, as a policy as you know, is trying to reduce the expenditure on administrative expenses and, I think, as far as this particular area is concerned, as it is a welfare organization, the administrative expenses are in any case kept under a very strict control.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال - پروڈیوسر خورشید صاحب -
 پروڈیوسر خورشید احمد : اگر آپ اسکا Proportion نکالیں تو جو آپ
 نے disburse کیا ہے تقریباً ^{۹۰ فیصد} administrative expenses ہیں کسی میعاد
 پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کم ہونے کا رجحان ظاہر کرتے ہیں ۔

The Government should re-examine the whole thing and see where expenses can really be curtailed.

Rana Naem Mahmud Khan : I would say that it is the opinion of the honourable Member, I respect it and I will ask them to have a look at it. Thank you, Sir.

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی مولانا کوثر نیازی صاحب ضمنی سوال -
 مولانا کوثر نیازی : جناب والا ! وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ
 چندہ بڑھانے کے لیے سرگرمی سے غور کیا جا رہا ہے کیا وہ یہ فرمائیں
 گے کہ جب حکومت صرف غور کرتی ہے تو اس پر کتنا وقت لگتا
 ہے اور جب سرگرمی سے غور کرتی ہے تو اس پر کتنا وقت لگتا
 ہے ؟

Rana Naem Mahmud Khan : Sir, my reply was active consideration'. It translation to "سرگرمی" is not understandable. However, I would like to state here that at the moment this matter is at a stage where the amendments to the Act have been drafted and are waiting the approval of the Cabinet, so that they can be placed before the Parliament for passing. Thank you.

Mr. Deputy Chairman : Thank you.

سردار خضر حیات خان : ضمنی سوال جناب ، رقم بڑھانے سے
 کیا ایڈمنسٹریٹر اخراجات بھی بڑھائے جائیں گے ۔ کیا اس پر بھی سرگرمی
 سے غور کیا جائے گا ؟

رانا نعیم محمود خان ! جی ضرور غور کیا جائے گا۔
جناب ڈپٹی چیئرمین : اگلا سوال نمبر ۹

SCIENTIFIC RESEARCH MISSION TO ANTARCTICA

9. *Mr. Javed Jabbar (Put by Prof. Khurshid Ahmad) : Will the Minister for Science and Technology be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to send a scientific research mission to Antarctica on lines similar to missions sent by many other countries, including India?

Dr. Mahbul Haq : At present there is no proposal under consideration in the Ministry of Science and Technology to send a scientific research mission to Antarctica.

پروفیسر خورشید احمد : ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر کرے ؟ یہ ریسرچ کا ایریا بڑا fascinating ہے اور اس میں دوسرے ممالک میں سے بھی لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو اگر کوئی پرائیویٹ انٹرسٹ بھی ہو تو اس کے بارے میں غور کیا جائے۔

Dr. Mahbul Haq : Mr. Chairman, we can always consider it and if the honourable Senator were to volunteer to go to this frozen continent I think prospects of our mounting an expedition might improve. It is true Sir, that it is an important continent even though it is frozen. About 18 countries have already established their scientific research stations there. According to the treaty, till 1991 countries are allowed to establish scientific stations. After that the area will be divided up among the countries which are there and they can explore for some of the hidden wealth of the continent and this is certainly very much under our consideration and if a joint expedition of private and public sector can be mounted, we will certainly welcome.

Mr. Deputy Chairman : Next question.

EXPORT OF SURGICAL INSTRUMENTS

10. *Mr. Javed Jabbar (Put by Prof. Khurshid Ahmed) : Will the Minister for Industries be pleased to state whether in view of the successful exports from Pakistan of surgical instruments, the Federal Government is taking measures to increase and diversify manufacturing facilities in Pakistan for other medical products?

Chaudhry Shujat Hussain (Read by Mian Muhammad Zaman) : The successful export of surgical instruments notwithstanding the medical products, aids and equipments industry is in the stage of infancy in the country. The Government is, however, providing fiscal and monetary incentives to the industry based on modern technology and electronic development so that enhanced production capacities and diversification in the industry are achieved to the benefit of the country.

پروفیسر خورشید احمد : ضمنی سوال - سوال دراصل یہ تھا چونکہ اس ایریا میں ایکسپورٹ بہت اچھی رہی ہے اس لیے کیا حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی خصوصی پروگرام بنایا جائے۔ خصوصی incentives دیئے جائیں۔ لیکن جواب بڑی جملہ نوعیت کا ہے جو عام پالیسی کے بارے میں ہے اس لیے کہ جو incentive عام دیئے ہیں آپ نے وہ سپینک نہیں دیئے ہیں یعنی سرجیکل انسٹرومنٹس یا میڈیکل گڈز کے بارے میں۔

میال محمد زمان : جناب چیئرمین! سرجیکل انسٹرومنٹس در قسم کے ہیں ایک عام آلات جراحی ہیں جو ملک میں پہلے سے بن رہے ہیں اور ایک جدید ایکٹرونک ڈرپلینٹ کی صنعت ہے جو ابھی ملک میں ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کے لیے حکومت نے مختلف قسم کی ترغیبات دیا ہیں۔ یعنی اس صنعت کو Pioneer انڈسٹری قرار دیا ہے جس

[Mian Muhammad Zaman]

کے تحت اس صنت کی مشینری پر درآمدی ڈیوٹی معاف ہے اور ٹیکس کی چھوٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بعض علاقوں میں مثلاً اسلام آباد یا جو دفاق کے زیر انتظام علاقہ ہے اور صوبہ سرحد میں اس پر مزید یہ اضافی رعایت دی گئی ہے کہ جو خام مال اس انڈسٹری کے لئے درآمد کیا جائے گا اس پر بھی کسٹ ڈیوٹی اور ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی۔

REWARDS GIVEN TO THE INJURED GOVT. SERVANTS.

10-A. *Qazi Abdul Latif (Put by Prof. Khurshid Ahmad) : Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to refer to his statement made on 7th January, 1988 in reply to part (d) of Starred Question No. 5 and state the details of the rewards given by the government to the injured government servants?

Syed Qasim Shah : The citation for the grant of Tamgha-e-Shajjat (Civil) in respect of Mr. Mukaram Shah, Assistant Political Agent Ladha, Mr. Allaud-din Khan, Political Naib Tehsildar Sara Rogha and Mr. Gul Aslam Khan Political Naib Tehsildar Ladha, have since been sent by the Commissioner D. I. Khan to the Provincial Government of NWFP, which is under process.

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES

1. **Prof. Khurshid Ahmad :** Will the Minister for Interior be pleased to furnish the following information :—

(a) the names, dates of registration of political parties, registered so far with the Election Commission under the Political Parties Act ;

(b) Names, dates of receipt of application and date of rejection of application of the political parties alongwith the names of their office bearers whose registration has been refused ; and

(c) Names and dates of receipt of the applications of the political parties alongwith the names of their office bearers whose registration is still under consideration ?

Malik Naseem Ahmad Aheer : (a)

Date of registration	Name of Political Party
1	2
9-2-1986	(1) Ghareeb Awan Party, Karachi. (2) Pakistan Muslim League, Islamabad
24-2-1986	(3) Tehrik-e-Istiqlal Pakistan, Rawalpindi. (4) Jammata-e-Islami Pakistan, Lahore. (5) Pakistan Musawaat Party, Lahore. (6) Pakistan Shia Political Party, Lahore. (7) Khaksar Tehrik Pakistan, Lahore. (8) Majlis-e-Ahrar-e-Islam Pakistan, Lahore.
8-3-1986	(9) Jamiat-e-Ulema-e-Islam Pakistan (JUI). (10) Jamiat-e-Ulema-e-Pakistan (JUP). (11) Markazi Jamiat-e-Ahl-e-Hadees Pakistan. (12) Almashriqi Khaksar Tehrik.
9-3-1986	(13) Pakistan Christian National Party, Lahore. (14) Pakistan Ittehad Tehrik, Karachi. (15) Pakistan National League, Karachi.
14-6-1986	(16) Progressive Peoples Party Pakistan, Karachi. (17) Pakistan Himayat Tehreek Pakistan.
21-6-1986	(18) Pakistan Awami League, Karachi. (19) Dehaat Ittehad Party, Sahiwal. (20) Pakistan Mashhi League. Sialkot.
28-6-1986	(21) Aalmi Majlis-e-Ahrar-e-Islam. (22) Pakistan Muslim Mahaz, Lahore. (23) Pakistan Baluch Ittehad Party, Karachi. (24) Pakistan United Minorities Council, Peshawar.

1	2
27-7-1986	(25) Pakistan National Masihi Kashtkar Party, Lahore.
10-1-1987	(26) National Peoples Party. (27) Tehrik-e-Tahaffuz-e-Azmat-e-Insani.(Pakistan).
30-12-1987	(28) Jamaat Ahl-e-Sunnat Pakistan, Lahore.

(b)

S. No.	Name of the political party	Name of head of the party	Date of receipt of application	Date of rejection of application
1	2	3	4	5
1.	All Pakistan Muslim League, Karachi.	Mr. Muhammad Mohtashim Khan Yousufzai, President.	21-1-1986	9-2-1986
2.	Peoples Party of Pakistan	Dr. Arshad Islam, President.	21-1-1986	8-3-1986
3.	Pakistan Mehnat Party	Mr. M. Akhtar Bhatti, President.	2-2-1986	27-7-1986
4.	Tehreek Ittehad Pakistan, Karachi.	Mr. Muhammad Shamim, Ahmed, President.	25-2-1986	27-7-1986
5.	Pakistan Muslim League, Karachi (Pagara Group).	Sh. Liaquat Hussain, President.	20-3-1986	28-6-1986
6.	Pakistan Muslim League, (Qaiyum Group).	Khan Amanullah Khan, President.	21-3-1986	28-6-1986
7.	Pakistan Qaumi Labour Party.	Mr. Muhammad Pathan Khan, Chairman.	6-4-1986	28-6-1986
8.	Pakistan Awami Party Lahore.	Mir Farman Ali, Convener.	21-5-1986	28-6-1986
9.	Pakistan Quaid-e-Azam Patriotic Party (Mohib-e-Watan Party).	Mr. Abdul Latif Mughal, President.	21-5-1986	27-7-1986
10.	Pakistan Maula Jat Party, Jhelum.	Ch. Muhammad Naeem, President.	25-3-1986	28-6-1986
11.	Pakistan Congress Party, Denmark.	Mr. Targheeb Buland, Chairman.	01-7-1986	27-7-1986
12.	Pakistan Bhukhar Party, Chakwal.	Mr. Allah Ditta, President.	18-3-1986	27-7-1986
13.	Anjuman Tahaffuz-e-Haqooq-e-Mazdooran, Faisalabad.	Allama Ijaz Hussain Alvi, President.	29-1-1986	27-7-1986

(c)

S. No.	Name of political party	Date of receipt of application for registration	Names of office bearers
1	2	3	4
1. Watan Party.		24-2-1986	(1) Mr. Zafarullah Khan, Chairman. (2) Mr. Zahur Elahi, General Secretary.
2. Tameer-i-Pakistan Party.		23-6-1986	(1) Mr. Shujaatullah Siddiqi, President (2) Mr. Akhlaq Ahmed Siddiqi, Secretary-General.
3. Azad Masihi League.		26-3-1986	(1) Mr. Albert U. Mall, President. (2) Senior Vice President, Mr. Walter Earnest Pual. (3) Mr. Shoukat Ilyas, Vice-President. (4) Mr. A.M. Massey, Secretary-General. (5) Mr. Faiz Khuda Bakhsh Gill, Deputy Secretary-General. (6) Mr. M.L. Micheal, Chief Organiser. (7) Mr. William Khokhar, Information Secretary. (8) Mr. Rehmat Masih Bhatti, Field Secretary. (9) Mr. Mathew Boudwin, Treasurer.
4. Tehreek-e-Nizam-e-Mustafa		13-3-1986	(1) Pir Mohammad Azam Shah, President. (2) Kh. Mohammad Iqbal, Vice-President. (3) Sufi Habib Ahmed Warsi, V.P. (4) Sahibzada Mohammad Zahir Shah Qadri, V.P. (5) Maluana Wazir-ul-Qadiry, V.P. (6) Mr. Mohammad Anwar Azam, Secretary-General. (7) Sahibzada Mohammad Abdul Zahir Razvi, Joint Secretary. (8) Hafiz Mohammad Hamid Akhtar, J.S.

1	2	3	4
			(9) Mr. Abdul Salam, J.S.
			(10) Mr. Mohammad Iqbal Khan Tannoli, J.S.
			(11) Khan Hamidullah Khan Niazi, Secretary Information.
			(12) Mr. Iqbal Raad Advocate, Cashier
3. Pakistan Millat Party.	14-9-1986		(1) Mr. Nawab Ch., Convener.
			(2) Capt. (Retd.) Mohammad Anwar, Cord., Secretary.
			(3) Mr. Ustad Danish Alvi, Cord. Secretary.
			(4) Mr. S.M. Hyder, Cord. Secretary.
			(5) Dr. Mahyuddin, Cord., Secretary.
6. Pakistan Inqilabi Labour Party.	28-5-1986		(1) Mr. S.S. Hamid, President.
			(2) Mr. M.M. Baig, V.P.
			(3) Syed Abdullah Hashmi, V.P.
			(4) Mirza Saleem Baig, Secretary.
			(5) Mr. Rahim Bakhsh, Cord. Secretary.
7. Pakistan Peoples League.	31-7-1986		(1) Mr. Ali Mohammad Aziz, President and Chief Organizer.
			(2) Mr. M.D. Ch., S.V.P.
			(3) Mr. Muhammad Hanif Khan V.P.
			(4) Sardar Mohammad Shakoor Khan V.P.
			(5) Mst. Asmat Asad, V.P.
			(6) Mr. Aftab Ali Khan General, Secretary.
			(7) Mr. Tariq Mahmud, Asstt; General Secretary.
			(8) Mr. Muhammad Ejaz Khan Warrasi, Publicity Secy.
			(9) Mr. Muhammad Saeed Khan, Treasurer.

LEAVE OF ABSENCE

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ جی۔ رخصت کی درخواستیں۔ جناب احمد میاں سومرو صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ انہوں نے ایوان سے ۸ تا ۱۰ مارچ رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین : جناب طارق چوہدری صاحب نے ذاتی مفروضیات کی بنا پر ایوان سے ۸ مارچ کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے کیا ایوان رخصت کی درخواست منظور کرتا ہے؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین : میر یوسف علی خان مگسی نے اپنی علالت کی بنا پر ایوان سے ۶ تا ۱۷ مارچ کی درخواست کی ہے کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین : جناب جاوید جبار صاحب نے اپنی علالت کی بنا پر ایوان سے ۸ تا ۱۰ مارچ رخصت کی درخواست کی ہے، کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین : جناب شاد محمد خان صاحب ایک ضروری کام کی بنا پر ایوان میں ۶ مارچ کو شرکت نہیں کر سکے، انہوں نے ایوان سے اس تاریخ کے لئے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین : سید عباس شاہ صاحب نے بھی سبھی معروضات کی بنا پر ایوان سے یکم تا ۱۰ مارچ رخصت کی درخواست کی ہے کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس کے علاوہ جناب حاجی سیف اللہ خان صاحب وزیر مذہبی امور اور جناب نسیم احمد آہیر نے ۸ تا ۱۰ مارچ اجلاس میں شرکت سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔

ADJOURNMENT MOTIONS

جناب ڈپٹی چیئرمین : اب تحریک التوا لیتے ہیں۔
پروفیسر خورشید احمد : میری ایک تحریک استحقاق ہے جو ۵ مارچ کو دی گئی تھی اور اٹور کو جناب چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ آیا چیئرمین سے اس کی داپسی ہوئی ہے؟

جناب ڈپٹی چیئرمین : مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ابھی انڈر پراسس ہے۔

پروفیسر خورشید احمد : تحریک استحقاق کا اتنا لمبا پراسس نہیں ہونا چاہیے۔ رولز کا تقاضا یہ ہے کہ تحریک استحقاق باقی تمام

; RE : FIRING BY INDIAN ARMY ACROSS THE BORDER OF AZAD KASHMIR.

چیزوں پر ترجیح رکھتی ہے اور یہ چونکہ میں نے ۵ تاریخ کو دی تھی - ۶ صبح کو کم سے کم آپ کے ریکارڈ پر آگئی ہے اور چھ ہی کی میٹنگ میں جناب چیئرمین نے کہا تھا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں - تو دو دن کے بعد بھی یہ زیر غور ہے ؟

جناب ڈپٹی چیئرمین : نیکٹ سیشن میں انشاء اللہ لیں گے
شکریہ جی - تحریک التوا - مولانا کوثر نیازی صاحب جی -
نمبر ۱۵ -

(i) Re : FIRING BY INDIAN ARMY ACROSS THE BORDER

OF AZAD KASHMIR.

مولانا کوثر نیازی : جناب میری تحریک التوا یہ ہے کہ روزنامہ
جنگ مورخہ ۲۶ فروری کو اطلاع منظر ہے کہ بھارتی فوج آزاد کشمیر
کے علاقے ضلع باغ کے بعض مقامات پر مسلسل تین دنوں سے فائرنگ
کر رہی ہے اور علاقے کے بہت سے لوگ یہاں سے ہجرت
کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں نیز بھارتی فوج بڑی تعداد میں آزاد کشمیر
کی سرحدات پر جمع ہو رہی ہے یہ اطلاع تشویش ناک ہے لہذا
میں تحریک کرتا ہوں کہ اس پر ایوان میں بحث کی جائے۔

Rana Naeem Mahmud Khan : Opposed, Sir.

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی پوزڈ ، آپ مزید ارشاد فرمائیں۔
مولانا کوثر نیازی : جناب والا ! پچھلے کچھ عرصے سے بطور خاص
یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ بھارتی حکومت کے قول اور

[Maulana Kausar Niazi]

عمل دونوں میں جارحیت برپا ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیڈروں کے بیانات ایسے ہیں جن سے دشمنی کی لہ آ رہی ہے اور عمل وہ ہے جو آزاد کشمیر کے علاقہ باغ پر مسلسل تین دن کی فائرنگ سے متشعب ہے۔ حکومت کو اس مسئلے میں ایوان کے سامنے حقائق رکھنے چاہئیں کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں یک لخت اس بگاڑ کا کیا سبب ہے اور آزاد کشمیر کی سرحالت پر بھارتی فوجوں کے اجتماع کا کیا پس منظر ہے۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس قابل ہے کہ اس پر اس ایوان میں بحث کی جائے۔

پروفیسر خورشید احمد؛ جناب اسپیکر! میں بھی دراصل اس مسئلے پر محرک کی پوری پوری تائید کر دوں گا دراصل ہندوستان مختلف انداز میں پاکستان پر اپنا Pressure build کر رہا ہے کبھی یہ آزاد کشمیر میں ہوتا ہے کبھی سیاحت میں ہوتا ہے کبھی راجستھان سیکڑ میں ہوتا ہے چنانچہ یہ ایک ایسی ڈومینٹ ہے جس کا پاکستان کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اور معاملہ صرف فوجی نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے اور اس سے بھی زیادہ میری نگاہ میں قوم کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ بیرونی جارحیت کا مقابلہ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جو تخریبی کام کر رہا ہے مختلف secessionist movements جس طریقے سے وہ فنائیس کر رہا ہے موبلائیز کر رہا ہے تخریب کاری کے کام کر رہا ہے تو ان تمام کا نوٹس لینا اور قوم کو اس کے لیے تیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک پر بحث کی جائے اور اسی سیشن میں کی جائے یہ نہ ہو جیسا کہ ماضی میں

REFIRING BY INDIAN ARMY ACROSS THE BORDER OF AZAD KASHMIR.

ہوتا رہا ہے کہ تحریکیں منظور ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان پر ڈسکشن کے لیے کوئی تاریخ نکل نہیں کی جاتی تو جناب والا ! تحریک کی قومی اہمیت اور فوری نوعیت کی بنا پر میں اس کی پوری پوری حمایت کروں گا کہ اس مسئلے پر ایوان میں گفتگو کی جائے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکر یہ ! جناب عبدالرحیم میرداد خیل۔

جناب عبدالرحیم میرداد خیل : میں اس تحریک کی حمایت کرتے

ہوئے یہ کہوں گا کہ دفاعی نقطہ نگاہ سے خاص کر آزاد کشمیر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور پاکستان کے عوام کی حفاظت اور پاکستان کی سر زمین کے ایک ایک اہلک کی حفاظت کرنا حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ہر جگہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے تو یہ بات اس ملک کے لیے نہایت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور میں یہ کہوں گا ان سلسلے میں کہ اس قرار داد کو یا اس تحریک کو منظوری کے لیے اس ایوان میں پیش کیا جائے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکر یہ ! رانا صاحب۔

Rana Naeem Mahmud Khan : Thank you Mr. Chairman. Mr. Chairman, the honourable Senator has moved an adjournment motion to be discussed regarding the continuous firing by Indian troops in the district of Bagh, Azad Kashmir. Sir, even if I agree with the sentiments of the honourable Member about the recent posture taken by the Indian leaders, Pakistan can only regret the situation as has been stated by me in my submission to the House regarding motions on the speeches of the Indian Prime Minister and the Indian President. However,

[Rana Naeem Mahmud Khan]

Sir, as far as this particular incident is concerned, according to the available information; Indian troops carried out unprovoked firing on our troops and civilians in Ali Abad area, district Bugh on 19th, 22nd and 24th of February 1988. No unusual concentration of Indian troops on the Azad Kashmir border has been noticed. Complaints have been lodged with the United Nations Military Observer Group by Pakistan for these serious violations of the control line. The line of control occasionally witnesses unprovoked violations of this nature by the Indian troops. I can assure the Members of the House that the Pakistani troops take appropriate measures to deal with such situation. I would request the honourable Member not to press this motion because it is not based entirely on facts. Thank you Sir.

مولانا کوثر نیازی : جناب والا! وزیر صاحب ایک طرف اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ فائرنگ ہوئی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے entirely کا ایک عذر لگا کر وہ اس کو مسترد کرانا چاہتے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور صرف یہی incident نہیں بلکہ اگر وہ فراخ دلانہ طور پر اس مسئلے پر غور کریں تو قومی نقطہ نظر سے بھی ملک کی دفاعی پالیسی اس ایوان میں زیر بحث آتی چاہیے مختلف پالیسیز اس ایوان میں زیر بحث آتی رہی ہیں لیکن ملک کی دفاعی پالیسی ابھی تک زیر بحث نہیں آئی، ملک کا ڈیفنس منسٹر موجود نہیں ہے اگرچہ ہمارے جوان سال وزیر مملکت حسن و خوبی سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن full fledged Defence Minister بھی ملک میں ضرورت ہے، وزیر اعظم کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ کام ہے، بوجھ ہے ان پر، ایک جداگانہ منصب اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں ادا کرتے کے لیے کسی قابل وزیر کو

RE : FIRING BY INDIAN ARMY ACROSS THE BORDER OF AZAD KASHMIR.

یہ ذمہ داری سوچنی جائے یا وزیر مملکت ہی کو fullfleged وزیر دفاع بنا دیا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملک کی دفاعی پالیسی بحیثیت مجموعی اس ایوان میں زیر بحث لایا جائے کیونکہ یہ ہمارے ملک کے استحکام اور ہمارے ملک کی سالمیت کا سوال ہے اگر وزیر صاحب یہ عہدہ کرنے کو یا اعلان کرنے کو تیار ہوں کہ وہ اس ایوان میں اس ملک کی دفاعی پالیسی کو زیر بحث لاتے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں اپنی اس تحریک پر اصرار نہیں کروں گا۔

Rana Naeem Mahmud Khan : Mr. Chairman, I would first like to thank the honourable Member for his kind words about me and also thank him for the 'Sifarish' (سفارش) he has made. However, coming back to the subject matter, the reason I say 'entirely' is because the matter of the adjournment motion states "unusual troop movement" on the borders which I have to contradict and that is why, I say it is not 'entirely' based on facts. As far as the question of having a full-fledged debate on defence policy is concerned, Sir, I would like to submit; (1) usually a defence policy of a country is governed by its foreign policy and matters which relate to the defence have been and can be discussed in debates on foreign policy. Moreover, Sir, I would also like to state that I think an adjournment motion has already been admitted which was moved during the last session and it was admitted on my request for a debate regarding defence matters. When that debate takes place, the honourable members would be free to make contribution to our policies which we would always welcome. Thank you, Sir.

مولانا کوثر نیازی : کیا وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ ڈیپٹ
 کب اس ایوان میں ہوتے والی ہے۔
 جناب ڈیپٹی چیئرمین : وہ تو میرے خیال میں پچھلے سیشن میں
 ہوئی تھی لہذا یہ گورنمنٹ کی صوابدید پر ہے۔

[Mr. Deputy Chairman]

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, we will consult and fix a date as soon as possible. Thank you.

مولانا کوثر نیازی : اگر وہ جلد اس موضوع پر بحث کرا دیں تو پھر میں اپنی تحریک پر اصرار نہیں کروں گا۔

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, I have already submitted that in consultation with the Secretariate we will soon fix a date for that debate.

مولانا کوثر نیازی : کرنٹ سیشن میں ہو جائے۔
جناب ڈپٹی چیئرمین : یہ تو میرا خیال ہے کہ . . .

Rana Naeem Mahmud Khan : Sir, I do not really make a commitment unless we have consulted we don't know, how long the session is going to last, how many days there are going to be sittings. What is the work load before the Assembly as such I think, I can not make a commitment like this. Thank you Sir.

مولانا کوثر نیازی : اب جناب کے ماتھے میں ہے۔
جناب ڈپٹی چیئرمین : ناٹ پریسیڈنٹ تحریک التوا نمبر ۱۴، قاضی عبداللطیف صاحب کے نام پر ہے وہ موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ ڈراپ ہو گئی، پھر نمبر ۲۰، جناب عبدالرحیم میرداد خیل صاحب۔

(ii) RE : OCCUPATION OF DHODAK OIL FIELD BY SOME

TRIBESMEN OF D. G. KHAN

جناب عبدالرحیم میرداد خیل : میں سخریک کرتا ہوں کہ روزنامہ "جسارت" کراچی مورخہ ۱۸ جنوری ۱۹۸۸ء میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے میرانی کٹ پیرانی اور ڈھوڈک قبائل سے

تعلق رکھنے والے تقریباً ۸۰ قبائلیوں نے ڈھوڈک آئل فیلڈ پر قبضہ کر لیا ہے اور آئل اینڈ گیس کارپوریشن کے ایک سو سے زائد کارکنوں اور امیروں کو پرغال بنا لیا ہے اس اہم قومی اور فوری نوعیت کے مسئلے پر ایوان میں بحث کی جائے۔

Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo : Opposed Sir.

جناب عبدالرحیم میر دادخیل : جناب چیئر مین ! جس طرح ملک کے امن و امان کا مسئلہ ہے جس کا ملک میں فقدان ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب کئی قبائل آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور وہ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو پر فتح حاصل کر لی ہے تو جب اپنے ملک میں اپنی سرزمین پر اس طرح کے حالات پیدا کئے جاتے ہیں تو توہ معلوم ہمارے عوام کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اگر اسی طرح ایک دوسرے کو اغوا کرنے اور پرغال بنانے سے اپنے مسائل کو آگے لانا ہے تو آگے چل کر یہ ایک بہت بڑے فتنہ خیز کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ حکومت اس سلسلے میں ایک واضح پالیسی بنائے تاکہ اس ملک میں ہر ایک شخص کی عزت آبرو اور جان و مال محفوظ رہ سکے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین : شکریہ جی ! میاں یاسین وٹو صاحب۔
میاں محمد یاسین خان وٹو : جناب والا ! میں فاضل سینیٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ اس سے پہلے انہوں نے ۱۸۔ جنوری کو ایک ایڈجرنمنٹ موشن دی تھی اب

[Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo]

مجھے یاد نہیں کہ وہ کس وجہ سے نہیں آسکی اور انہوں نے دوبارہ اسی چیز کے متعلق ایڈجرنمنٹ موشن دی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ اب فوری نوعیت کا نہیں رہا ہے بلکہ یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور مثل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ۱۸ جنوری کو او۔ جی۔ ڈی۔ سی کے انٹران اور مقامی قبائل کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں معاملہ طے ہو گیا تھا اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک میٹنگ پھر ہوگی جس میں باقی مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اب ۱۵ فروری کو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں جتنے باقی مسائل رہ گئے تھے وہ بھی پورے طور پر حل ہو گئے ہیں۔ قبائلی حضرات بھی اور لوکل یاڈیز کے بھی متعلقہ ممبران اس علاقے کے موجود تھے اور سرکاری انٹران بھی رسالدار تحصیلدار، پولیٹیکل ایجنٹ اور پرنسپل ایڈمنسٹریٹیشن آفیسر، او۔ جی۔ ڈی۔ سی کے انٹران۔ ان سب لوگوں نے بیٹھ کر مکمل طور پر یہ معاملہ طے کر لیا ہے۔ وہاں اب امن و امان ہے اور کام جاری ہے خدا کے فضل و کرم سے سارا مسئلہ درست ہے۔ فاضل ممبر صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب اس کی فوری اہمیت اور فوری نوعیت نہیں رہی۔ فوری تو ویسے ہی نہیں کیونکہ اتنی دیر اس میں ہو چکی ہے۔ لیکن اس کی فوری اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ معاملہ اب طے ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں وہ جو توجہ دلانا چاہتے تھے اب میں ان کی توجہ اس چیز کی طرف دلاتا ہوں کہ وہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔

جناب عبدالرحیم میر دادخیل : جناب چیئرمین ! معاملہ یقیناً طے ہو چکا ہے۔ معاملہ طے کرایا ہے یا ہوا ہے تو وہ بزور شمشیر ہوا ہے اگر یہ حکومت نخلص ہوتی تو وہ ان کے مسائل جو تھے ان کو حل کرتی لیکن جب مسائل پُر امن طور پر حل نہیں ہوئے اور بات چیت کو نہیں مانا گیا تو پھر انہوں نے اس طرح قانون کو اپنے ماتھے میں بیا اور اس طرح افزائزی پیدا ہوئی۔ یہ اچھا ہوتا کہ جو تنازعہ ہے اسے باہمی مشورے سے پہلے ہی حل کرتے یہ تو بعد میں دباؤ کے تحت اور ایک دوسرے کو یرغمال بنانے سے حکومت مجبور ہوئی یا یہ افزان مجبور ہوئے اور پھر یہ مسئلہ آگے آیا۔ تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ یہ مسائل پہلے ہی پُر امن طور پر حل کر لیے جاتے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : مولانا ! وزیر صاحب کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اس لیے یہ تحریک غیر موثر ہو چکی ہے۔ ایڈجرنٹس موشن نمبر ۲۲ قاضی عبداللطیف صاحب۔ نہیں ہیں۔ ڈراپ ہو گئی نمبر ۲۳۔ میر عبدالرحیم میر دادخیل صاحب۔

جناب عبدالرحیم میر دادخیل : جناب والا ! مجھے افسوس یہ ہے کہ ابھی تک پورے تین سال آپ میرا پورا نام ہی نہیں سیکھ سکے۔ میرا نام ہے۔ عبدالرحیم میر دادخیل۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : میں نے یہی کہا ہے۔

[Mr. Deputy Chairman]

(11) RE : LOSS OF RE. 3 CRORES DUE TO ILLEGAL AGREEMENT BETWEEN G. M. KOHII-1-NOOR TEXTILE MILLS FAISALABAD AND REGIONAL DIRECTOR EOBI.

جناب عبدالرحیم میرداد خیل : روزنامہ "مرکز" اسلام آباد مورخہ ۹ فروری ۱۹۸۸ء میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ کوہ نور ملز فیصل آباد کے جنرل مینجر اور ریجنل ڈائریکٹر ادلڈ ایچ بینی فٹس انسٹیٹیوٹ کے درمیان غیر قانونی معاہدہ کی رو سے وفاقی حکومت کو تین کروڑ روپے سے محروم کر دیا گیا ہے جو اس سکیم کے مطابق حکومت کو ملنے والی رقم تھی لہذا اس اہم قومی مسئلہ پر ایوان کی کارروائی ردک کر بجٹ کی جائے۔

Mr. Abdul Sattar Lalika : Opposed Sir.

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی مولانا صاحب - اب آپ مزید وضاحت فرمائیں۔

جناب عبدالرحیم میرداد خیل : جناب چیئرمین ! پہلے ایک معاہدہ کوہ نور ملز فیصل آباد سے کیا گیا۔ جس کی رو سے کوہ نور ملز نے اپنے ذمے ۲۱۹۰۹۲۱۶ روپے جس میں لیٹ فیس شامل کریں تو یہ رقم ۳۲۹۹۶۱۲۴ روپے بنتی ہے۔ قسطوں میں دینا طے کیا تھا اور معاہدہ کے مطابق یہ رقم ایک لاکھ روپیہ ماہانہ ادارے کو دے گی تو اس رقم میں سے ادارہ کو ۵۶۱۶۳۰۳ روپے جمع کر دئے تھے۔ بقایا رقم ۲ کروڑ ۷۳ لاکھ روپے قسطوں میں ادائیگی کرنی تھی جو تقریباً ۲۳ سال میں پوری ہوتی تھی جب کہ ملز کے ملازمین کو پنشن کی مد میں ۲ لاکھ چھپیس ہزار روپے ادا کرنا ہیں۔ ملازمین کی

لنڈا، ہے جن کو پنشن کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اگر یہ رقم بھی سرکاری ادارہ کو منافع کی سکیم میں سے دی جاتی تو ۲۳ سال میں یہ رقم جمع ہوتی اور تقریباً ۵۰ کروڑ روپے بنتے تھے مگر ایک بیورد کریٹ نے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو اتنی بڑی رقم سے محروم کر دیا ہے۔ جناب والا! اگر اس ملک میں ایسے حالات ہوں گے اور جس طرح ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اس ملک میں کئی ارب روپے رشوت کے طور پر لیے جاتے ہیں اگر ہر محکمے میں ایسے حالات پیدا کئے جائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور اگر اس میں صحیح طور پر ایمانداری اور خلوص نیت سے کام کیا جائے تو یہ ملک پھر سے عوام کے لیے گل و گلزار بن سکتا ہے۔ ملک کے جو یہ پیسے ہیں یہ قوم کی امانت ہیں اور ان محنت کشوں کے خون پینے سے یہ ملک چل رہا ہے تو پھر میں اتنی ہی گزارش کروں گا جناب ستار لایبکا صاحب سے کہ خذرا اس ملک پر رحم کیجئے اور اپنے اس محکمے پر بھی رحم کیجئے تاکہ صحیح طور پر مسائل حل ہو سکیں۔

میال عبدالستار لایبکا : حضور والا! ویسے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بھی اس موشن کو اپوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فوری نوعیت اور فوری اہمیت کا واقعہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارا تعلق ایک منتخب حکومت سے ہے تو ہم اپنے آپ کو اس ایوان کے معزز ارکان کے سامنے ہر بات کے لیے جوابدہ سمجھتے ہیں۔ میں عبدالرحیم میر داد خیل صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں ان کو اس واقعہ کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں

[Mian Abdul Sattar Lalika]

کے۔ سنور والا! جہاں تک کوہ نور ٹیکسٹائل ملز کا سوال ہے تو ماسٹی
 یں یہ مل ہمیں ۴۰ ہزار روپے ماہانہ کنٹری بیوشن دیتی رہی ہے۔ اولڈ
 ایچ بینی فنڈ سکیم کے تحت تنخواہ کا ۵ فیصد ہمارا حکمہ لیتا ہے۔
 ہمیں وہ صرف ۴۴ ہزار روپے دیتے تھے پھر ہم نے آکر اس
 چیز کو ٹریس کیا اس چیز کو پکڑا کہ یہ کنٹری بیوشن کم دے رہے
 ہیں تو ہم نے ۷۶ لاکھ سے لے کر ۸۶ لاکھ تک ان کے ذمے ۲ کروڑ
 ۷۳ لاکھ روپے کی رقم نکالی۔ اب ہمارا کلیم ان سے یہ تھا اور
 ہم ان سے چاہتے تھے کہ وہ اپنی کتابیں ہمیں پیش کریں تاکہ اس کے
 بارے میں مکمل حساب ہو سکے۔

حضور والا! جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی بورڈ کریٹ
 نے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے یہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض
 کرتا ہوں کہ ہمارے انڈر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی کام اچھا
 کرے اسے appreciate کیا جائے۔ اگر ایک آدمی نے آکر
 ایک چیز کو پکڑا ہے اور اسے منظر عام پر لایا ہے تو میں
 سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس آدمی کی بہادری ہے کہ دس سال تک یہ ادارہ
 صرف ۴۰ ہزار روپے ماہانہ دیتا رہا جب کہ ہم ان سے ایک
 لاکھ ۷۴ ہزار روپیہ ماہانہ بطور contribution وصول کر رہے ہیں
 ہماری پہلی جو contribution کی رقم تھی وہ تقریباً اس ریکن سے
 ۱۲ لاکھ روپے بنتی تھی لیکن اس آئینہ کے آنے کے بعد ہماری
 یہ contribution کی رقم ۱۲ لاکھ سے بڑھ کر بائیس لاکھ روپے
 ماہانہ ہوئی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ اقساط کوئی تیس سال کے
 لیے نہیں طے کر لی ہیں۔ ہم نے تو ان کے ساتھ ایک interim

arrangement کیا ہے۔ جو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پانچ لاکھ روپے مئی ۱۹۸۶ میں ادا کیا، پانچ لاکھ روپے جون ۱۹۸۶ میں ادا کیا، اور اس کے بعد ایک لاکھ اترالیس ہزار روپے as contribution اور ایک لاکھ روپے arrears میں سے ہمیں وہ ادا کر رہے ہیں اور جب ہمارا ان کے ساتھ فنانس سیٹلمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ان سے پوری رقم کا مطالبہ کریں گے۔ جہاں تک اقساط کرنے کا سوال ہے تو یہ اس آئینہ نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہیں بلکہ ہیڈ آفس سے اس چیز کی باقاعدہ منظوری حاصل کی ہے اور یہ کوئی میلر جنرل ہے کہ انہوں نے بات نہیں ہے بلکہ پیپل گورنمنٹ سیکڑ میں جو ادارے ہیں ان کے ذمے ہمارے کافی arrears موجود تھے، ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسی سیٹلمنٹ کی ہے۔ ان میں ٹیکسٹائل ہیوسٹی کپلیکس اور پبلک سیکڑ میں روڈ ٹرانسپورٹ سندھ آتے ہیں۔ ان کے ذمے بھی ہمارے کافی بقایا جات تھے، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے سیٹلمنٹ کئے ہیں کیونکہ ہم نہیں یہ چاہتے کہ کوئی ادارہ کورٹ میں چلا جائے اور پھر تمام کا تمام جو مسئلہ ہے وہ التوا میں چلا جائے اور ہماری رقم stuck up ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس مل کے ساتھ جو بھی ہمارے معاملات چلتے رہے ہیں۔ اس دوران اس ادارے سے جن کارکنان کی پنشن due تھی، جو کہ ایک لاکھ پچپن ہزار روپے کے قریب تھی، وہ دیتے رہے ہیں، جہاں تک اس ادارے کی کارکردگی کا سوال ہے، تو میں، عبدالرحیم میرداد جنرل سائب کی خدمت

[Mian Abdul Sattar Lalika]

میں عرض کروں گا کہ ہمارا یہ ادارہ، ایک ایسا ادارہ ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا collection rate ۴ فیصد ہے اور جو سوشل سیکورٹی کے واسطے collection کرتے ہیں ان کے اس عمل پر اخراجات ۱۲ فیصد کے قریب آتے ہیں میں پھر ان کو یقین دلاؤں گا کہ ہم ان اقساط کو کوئی تیس سال تک نہیں بے جا چاہتے یہ ہم نے ایک interim arrangement ان کے ساتھ کیا ہے۔ جب بھی ان کے ساتھ ہمارا حساب کتاب فائنل ہو جاتا ہے تو ہم ان سے اس رقم کا مطالبہ کریں گے اور انشاء اللہ اسے وصول کریں گے۔ ان گزارشات کے ساتھ میں معزز ممبر سے گزارش کروں گا کہ وہ تحریک کو پریس نہ کریں۔

شیخ اعجاز احمد: پوائنٹ آف آرڈر، جناب والا! عبادت لالیکا صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ تین کروڑ انتیس لاکھ روپے کی واجب الادا رقم میں سے نئی جو قسطیں کوہ فور ٹیکسٹائل ملز دی رہی ہے، وہ تقریباً ایک لاکھ روپیہ ہے۔ اس پر میرے خیال میں صرف ڈھائی لاکھ روپے صرف مارک اپ کی رقم بن جاتی ہے ماہانہ، تو آپ نے جو ایک لاکھ روپیہ سٹیٹمنٹ کیا ہوا ہے، اس سے اصل رقم تو کبھی وصول ہی نہیں ہوگی، یہ تو صرف مارک اپ بھی نہیں بنتا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی ادارہ سے سٹیٹمنٹ کریں تو کم از کم اتنی تو اس میں حقیقت پسندی ہونی چاہیے کہ بھائی مارک اپ کی رقم تو ملے۔ یہ تو مارک اپ سے بھی آدھی

تم ہے جہاں آپ نے سیلمنٹ کر لیا ہے۔ یہ آپ کے ڈیپارٹمنٹ
نے کون سا کمال کیا ہے۔

میاں عبدالستار لالیکا : حضور والا! میں نے عرض کیا ہے
اور اس کی شاید شیخ صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہم نے ایک
interim arrangement کیا ہے اور جہاں تک وہ پرفرما ہے ہیں کہ
ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے کوئی کمال نہیں کیا، تو ماشاء اللہ وہ بزنس میں
ہیں، ہمارے بینک بھی ان کے سامنے موجود ہیں، وہاں نہ مارک اپ
ہوتا ہے اور نہ کچھ اور ہوتا ہے، bad debts میں کمرڈوں اور
ارہوں روپے کی رقمیں چلی جایا کرتی ہیں۔ ہم تو اس چیز سے بچنا چاہتے
ہیں، ہم ان سے ایک interim arrangement کے سخت دسولی کرتے
ہیں اور جب ہمارے حسابات ان کے ساتھ فائل ہو جائیں تو
پھر ان سے پوری رقم کا مطالبہ کر سکیں۔

شیخ اعجاز احمد : معذرت کے ساتھ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں
کہ interim arrangement اگر آپ کریں، یا آپ final arrangement
کریں کم از کم گھٹے والا arrangement تو نہ کریں کیونکہ تین کروڑ
روپیہ کی واجب الادا رقم پر اگر بارہ پرسنٹ سالانہ مارک اپ بھی
لیا جائے تو یہ اڑھائی لاکھ روپے صرف مارک اپ بنتا ہے۔ اس
یئے وہ ادارہ جو ہے وہ آپ پر کوئی مہربانی نہیں کر رہا ہے کہ
وہ آپ کو ایک لاکھ روپیہ ماہانہ دینے پر تیار ہو گیا ہے، ان
سے اگر آپ ایک لاکھ کے ساتھ اڑھائی لاکھ مارک اپ، یعنی ساڑھے
تین لاکھ روپے ماہانہ لیں تو ایک مناسب interim arrangement ہو گا
آپ interim arrangement کریں یا permanent arrangement کریں لیکن

[Sheikh Ejaz Ahmed]

ڈاٹ والا، اریجنٹ نہ کریں۔

میاں عبدالستار لالیکا؛ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ان سے پہلی در امتیاط جو ہیں وہ پانچ لاکھ کی لی ہیں، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ decision تک تمام کی تمام رقم pending ہو جاتی اگر وہ کورٹ میں چلے جاتے۔ بہر حال ہم نے ان کے ساتھ یہ arrangement کیا ہے، جو ان کی تجویز ہے اس پر بھی سوچیں گے۔

شیخ اعجاز احمد؛ میں نے آپ کو نشاندہی کر دی ہے آگے آپ کی مرضی ہے چاہے ان سے لین یا چھوڑیں۔

جناب عبدالرحیم میر داد خیل؛ جناب چیئرمین! جس طرح وزیر محترم نے واضح الفاظ میں اس کی وضاحت کی ہے، وہ سارے ایوان کے سامنے ہے۔ ہمارا کام تو نشاندہی کرنا ہے، یہ اب ان کا کام ہے کہ وہ اپنے محکمہ کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں، اس میں جو نقائص اور خرابیاں ہیں اس کو دور کریں۔ اگر اسی طرح معاملات کا یہ نوٹس لیتے رہیں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ لیبر کا محکمہ آگے نہ بڑھے یہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خامیوں اور خرابیوں کو صحیح طور پر اصلاح ہو، میں ان کی اس یقین دہانی کے ساتھ اپنی تحریک پریس نہیں کرتا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین؛ ناٹ پریسڈ اسبلی کی طرف سے

MESSAGES

- (i) MEMBERS OF PARLIAMENT (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL.
- (ii) THE PROVINCIAL MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 1988.

The first message is :

Mr. Deputy Chairman : In pursuance of Rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 1973 I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1988 on 3rd March, 1988.

The second message :

In pursuance of Rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 1973 I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Provincial Motor Vehicle (Amendment) Bill, 1988 on 2nd March, 1988.

Maulana Kausar Niazi : Point of order, Sir.

مولانا کوثر نیازی : پوائنٹ آف آرڈر، جناب والا! میں جو بات آپ کی وساطت سے اس ایوان کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ میں تحریک التوار کے ذریعے بھی لا سکتا تھا، لیکن اس میں کئی دنوں کا فرق پڑ جاتا، اور پھر اس کا مداوا نہ ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کی سینٹ کی سیٹ vacant ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کے لئے کوئی شیڈول announce نہیں ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لئے قواعد وضع کئے جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پہلے یہ کہا گیا تھا اور یہ اخبارات میں بھی چھپا تھا اور ہم

[Moulana Kausar Niazi]

نے بھی یہ amend کیا تھا کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی secret ballot سے ہو گا۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے اور باوثوق ذرا سے معلوم ہوا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کو ہٹا کر پھر سے by show of hands الیکشن کرانے کا اعلان ہونے والا ہے اگر جناب والا! یہ ہوا تو یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہو گا اور وہی کچھ ہو گا جو پہلے by show of hands کے ذریعے الیکشنوں میں ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے میں آپ کی وساطت سے وزیر قانون سے یہ یقین دہانی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں secret ballot کی جو شرط ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ جی جناب پروفیسر خورشید

صاحب۔

پروفیسر خورشید احمد : جناب چیئرمین! میں بھی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ یہ مسئلہ technicalities کا نہیں ہے اور جس وقت اس ایوان میں دستوری ترمیم پر گفتگو ہو رہی تھی تو لابی میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اور جن پر گفتگو ہوئی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ جہاں تک انتخاب کے طریقے کا تعلق ہے جو بھی انتخاب آئندہ سینٹ کا اسلام آباد سے ہو گا اس لئے کہ ہم اس وقت اس پر ترمیم لا رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ بات دستوری ترمیم میں آجائے لیکن ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت خود اس بات پر غور کر رہی ہے اور آئندہ یہ انتخاب جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہو گا لیکن میں نے بھی یہ بات سنی ہے کہ ابتدائی مسودے میں سیکرٹ بیلٹ ہی

رکھا گیا تھا۔ لیکن بعد میں کچھ محرکات یہ تجویز لائے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسکو by show of hands میں تبدیل کر دیا جائے۔ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس فلور پر وزیر عدل کو ہمیں assure کرنا چاہیے کہ سینٹ کے انتخابات نیشنل اسمبلی جو کرے گی وہ by secret ballot ہوں گے۔ شکریہ!

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی مولانا صاحب آپ پھر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

مولانا کوثر نیازی : جی ہاں! میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ خیال ہے کہ میں امیدوار ہوا تو سیکرٹ بیلٹ میں شاید میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ میں وزیر قانون سے یہ گزارش کروں گا کہ انہیں اپنے اراکین کے شعور پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے خواہ وہ درپردہ ہی کیوں نہ ہو وہ صحیح کریں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : بہر حال مولانا صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں بنتا کیونکہ اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وسیم صاحب کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ جناب وسیم صاحب۔

جناب وسیم سجاد : جناب والا! جہاں تک اسلام آباد کا تعلق ہے وہاں سے جو نمائندہ، سینٹ میں آتا ہے اس کے الیکشن کے بارے میں شروع سے یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کبھی بھی سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فرق صرف اتنا آ گیا ہے کہ اب وہ جو نمائندہ ہو گا اسے elect کیا جائے گا Choose

[Mr. Wasim Sajjad]

نہیں ہو گا۔ ایک فرق آ گیا تھا اور اس میں ترمیم کی گئی
 تھی آپ کو یاد ہو گا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس شخص نے پہلے
 Nomination papers file کر دیا اس کا motion پہلے move ہو جاتا
 تھا اور اگر وہ motion carry ہو جائے تو باقی سب لوگوں
 کے motion lapse کر جاتے تھے اور چونکہ جس کا پہلے nomination
 paper file ہو گیا اسکا motion پہلے more ہونا تھا۔ اسلئے
 آپ کو یاد ہو گا کہ لوگ اس انتخاب میں دلچسپی رکھتے تھے وہ رات
 کے ۱۲ بجے جا کر بستر لگا لیتے تھے تاکہ وہ صبح صبح پہلے جو ہنسی
 دتر کھلے وہ اپنا nomination paper file کر دیں۔ تو یہ وقتیں تھیں جس
 کی وجہ سے طریقہ کار میں تبدیلی کی جا رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ
 secret ہو یا نہ ہو، یہ تو کبھی بھی secret نہیں ہوا یہ ہمیشہ اسی
 طرح ہوا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی زیر غور نہیں ہے۔ لیکن اس طریقہ
 سے جو دقت آ رہی تھی کہ رات کو ۱۲ بجے وہاں جا کر سو جائیں تاکہ
 صبح صبح کاغذات file کر دیں اور ایک آدمی کے Nomination paper
 کے بارے میں motion carry ہو جاتا ہے تو باقی کے reject
 ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں تھیں یہ وقتیں تھیں جو زیر غور ہیں اور غالباً
 آج یا کل یہ ترمیم سامنے آ جائے گی۔ شکر یہ!

مولانا کوثر نیازی: جناب چیئرمین! وزیر صاحب نے گویا
 بین السطور between the lines یہ کہہ دیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ
 نہیں ہو گا۔ سینیٹ کے تمام ایکشن، ہر سیٹ کا ایکشن سیکرٹ
 بیلٹ سے ہوتا ہے پوری اسمبلی کا سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے
 اور یہ بالکل طے تھا کہ اس سیٹ کا ایکشن بھی سیکرٹ بیلٹ سے

سے ہو گا لیکن اب بعض خطرات کے پیش نظر اسکو بدلا جا رہا ہے اور اگر یہ *by show of hands* ہر اتو میں وزیر صاحب کو ابھی سے یہ عرض کر دینا ہوں کہ کم سے کم *as a protest* میں اس ایکشن میں حصہ نہیں لوں گا یہ ایکشن کے ساتھ مذاق ہوگا اور اسکا کوئی تعلق جمہوریت کے ساتھ نہیں ہوگا۔

پروفیسر خورشید احمد؛ جناب چیرمین! میں بھی اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ *chosen* کو *elected* سے بدلنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آئندہ باقاعدہ انتخاب ہو جس طرح باقی تمام اراکین سینٹ کا صوبوں سے اور علاقوں سے ہوتا ہے اور اب اگر اس سے *departure* کیا گیا اور اس میں *show of hands* دکھایا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے دستور کی بھی خلاف ورزی ہوگی اس قانون کی بھی خلاف ورزی ہوگی۔ جمہوریت کی خلاف ورزی ہوگی اور اس سپرٹ کا ڈائیلیشن ہو گا جس کے تحت یہ ترمیم منظور کی گئی تھی اس لیے کہ دلائل یہی دیئے گئے تھے کہ صرف مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جو پہلے آ جاتا ہے اس کا موشن مود ہو جاتا ہے اور باقی کے ساتھ مستنز ختم ہو جاتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ انتخاب لازماً اسی طرح *by secret ballot* ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ جب *by election* ہوتے ہیں تو پوری صوبائی اسمبلی صرف ایک شخص کو منتخب کرتی ہے لیکن *by secret ballot* کرتی ہے اگر سات کو کرتی ہے یا چودہ کو کرتی ہے یا تین یا دو کو کرتی ہے تو *secret ballot* سے کرتی ہے یہاں پر بھی وہی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی خواتین کا

[Prof. Khurshid Ahmad]

جو انتخاب کرتی ہے وہ بھی سیکرٹ بالٹ سے ہوتا ہے اور elected کے معنی ہی یہ ہیں کہ الیکشن by secret ballot ہو۔

کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ show of hands سے یہ کام کریں جس طریقے سے لوکل باڈیز میں کیا گیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کو متنبہ کریں کہ اگر حکومت نے اس معاملے میں elected کے الفاظ کو abuse کیا اور کوئی ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس کے ذریعے سے قانون کا مقصد رولز اینڈ ریگولیشنز کے ذریعے تباہ ہو جائے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ جی۔ اس کے لیے میرے خیال میں قانونی راستے اختیار کئے جائیں جہاں تک پوائنٹ آف آرڈر کا تعلق ہے اسکا بزنس سے کوئی تعلق نہیں۔۔۔۔

پروفیسر خورشید احمد : جناب چیئرمین اہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں باقی اگر حکومت نے یہ راستہ اختیار کیا تو قانون چارہ جوئے کے بارے میں بھی غور کیا جائے گا اور ایسے الیکشن کو ٹائی کورٹ کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ الگ مسئلہ ہے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل یہ بات حکومت کے سامنے لے آئیں۔

مولانا کوثر نیازی : جی ناں ! وزیر قانون کو پھر اس مسئلے پر عدالت میں بحث کرنی پڑے گی۔

ایک معزز رکن : فیس کے بغیر۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ legislative business لیے ہیں۔

(AMENDMENT) BILL; 1988.

شیخ اعجاز احمد؛ پوائنٹ آف آرڈر - جناب ایس نے ایک ایڈجسٹ
موشن چوٹیاں (پنجاب) کے انڈسٹریل اسٹیٹ کو بجلی فراہم نہ کرنے
کے بارے میں دی تھی۔

I wonder that this has not come for today.

جناب ڈپٹی چیئرمین: call attention notice میں آ گیا ہے۔ یہ ضروری
تھا اسی لیے اس میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو
لیں گے۔

شیخ اعجاز احمد؛ ٹھیک ہے شکریہ!
جناب ڈپٹی چیئرمین: جی جناب وسیم سجاد صاحب۔

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT)
BILL; 1988.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, with your permission I beg to move :

"That the Bill further to amend the Members of Parliament
(Salaries and Allowances) Act, 1974. [The Members of Parli-
ament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1988,
as passed by the National Assembly, be taken into considera-
tion".

Mr. Deputy Chairman : The motion moved is :

"That the Bill further to amend the Members of Parliament
(Salaries and Allowances) Act, 1974. [The Members of Parli-
ament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1988,
as passed by the National Assembly, be taken into considera-
tion".

کوئل صاحب Opposed کرتے ہیں!

پروفیسر نور شہد احمد: جی ہاں Opposed

جناب ڈپٹی چیئرمین: جی مولانا کوثر نیازی کا بجٹ کا آغاز ہو گیا۔

مولانا کوثر نیازی۔ جناب والا ملک بھر میں یہ مشہور ہے کہ لوگ بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں سرکاری ملازمین کے لیے فاضل وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے indication کا جو اعلان کیا تھا اور جس کے تحت ہر سال افراتفر کی شرح کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونے والا تھا اس حکومت نے اس دفعہ ختم کر دیا ہے۔ گوہ یا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اب نہیں بڑھ پائیں گی۔ کیونکہ حکومت اب مطمئن ہے کہ اس ملک میں اب کوئی پرابلم سرکاری ملازمین کو نہیں حالانکہ ایک چھوٹا سرکاری ملازم کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اندازہ آپ اس کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اس کے اپنے اخراجات اور اس کے علاج معالجے سے لگا سکتے ہیں۔

عام آدمی بے حد مشکلات کا شکار ہے۔ کیونکہ منگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نمائندہ ہے اگر یہ اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے اپنی مراعات میں اضافہ کرتی چلی جائے اپنی تنخواہ بڑھالے اپنے دفتروں کے اخراجات ایٹمی فون بل اپنے سفری اخراجات میں دوگنے اضافے کرنے بیٹھ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ملک میں احساس محرومی بڑھے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ پارلیمنٹ ہماری نمائندہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک الگ نیامراعات یافتہ طبقہ ہے جو پارلیمنٹ کے نام پر معرض وجود میں لایا گیا ہے۔ اس سے لوگوں کا اعتقاد اس جمہوری عمل پر سے اٹھ جائے گا۔ اور لوگوں کو یہ جو ایک آہس کی کرن نظر آئی تھی۔ کہ مارشل لا کے بعد اب ایک civilian set-up آیا ہے اور یہ ہمارا نمائندہ ہو گا۔ اس کو سخت دھچکا لگے گا۔ میں وزیر تانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اکثریتی پارٹی کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے

اس بات کا عوام کے سامنے اظہار اور اعلان کریں کہ مشغلات کے باوجود پارلیمنٹ کے ممبران بھی ایثار پیشگی پر آمادہ ہیں اور وہ ایثار کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں انہیں عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے عوام کو مہنگائی کے عفریت سے نجات دینے کی بجائے جھوٹے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھانے کی بجائے انہیں اپنی مراعات میں اضافے سے غرض ہے میں اس بل کو پارلیمنٹ کے وقار اور گریڈ بندی کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہوں اور اس بنیاد پر میں اس ایوان کے شعور سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بل کی منظوری دے دیں۔

پروفیسر نور شہید احمد: بواللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین! میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ اس سے پہلے وزارت عدالت و انصاف اور سیکرٹریٹ نے کہا تھا۔ کہ جو بل بھی اس ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ اس بل جیسے منڈ کیا جا رہا ہے اس کی کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔ لیکن اس معاملے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک بات جو ایک مرتبہ سٹ ہو گئی ہے یہ وزارت اور سیکرٹریٹ کا فرض ہے کہ اس پر عمل اس ابتدائی گزارش کے بعد جناب والا! میں اصل مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے۔ کہ میں اپنے دل کی گہراویں میں شرم اور ندامت کا احساس دگھتا ہوں مجھ سے کچھ دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ ایک ایسا بادبست جس پر ہم زیادہ بحث نہ کریں اور اسے خاموشی سے پاس ہونے دیں

[Prof. Khurshid Ahmed]

لیکن میرا ضمیر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے ارکان کو قوم کے خادموں کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے ہم میں سے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیئے ہیں اور جو اپنی ضروریات بحسن و خوبی پوری کر رہے ہیں اور جو ایکشن پر بھی خطیر رقوم خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں قوم کے سامنے یہ مثال قائم کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے چہ چاہیں کہ سرکاری خزانے سے کچھ لے کر قوم کی خدمت کریں۔ ہم جس اسلام کی دعا دیتے ہیں جس کا نام لیتے ہیں اگر اس کی روشن تاریخ کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کیا تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے امت کے لیے وقف کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے فرما دیا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں وہ پھر قوم کی طرف لوٹا دیا گیا تھا۔

جناب والا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو ایک نہایت معتدل شخص تھے جن کی دولت سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی جنہوں نے متعدد غلاموں کو خرید کر آزاد کیا صرف اس لیے کہ ان غلاموں کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے آقا ان پر ظلم کرتے تھے۔ جنہوں نے ہر کڑی مہم میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیا اور مثال قائم کی اور جس وقت حضور نے فرمایا کہ اس غزوہ کے موقع پر جو جس کے پاس ہے لے آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اگر اپنا آدھا اثاثہ لائے تھے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا سب کچھ حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ اول نے اپنے دور خلافت میں اس لئے کہ

جو کچھ ان کے پاس تھا۔ اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کر دیا تھا صرف قوت لایوت کو قائم رکھنے کے لیے معمولی مشاہرہ لیا اور مرتے وقت وصیت کر دی کہ جو میرا ایک مکان ہے اسے بیچ کر یہ ساری رقم بھی واپس کر دی جائے یہ ہیں اسلام کی روایات۔ ہماری روایات بادشاہوں والی روایات ہیں۔ اصل روایات ہماری وہ ہیں جو بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین صحابہ کرام نے قائم کی ہیں۔ اور پھر بادشاہت میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی تاریخ اس پہلو سے منفرد ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنا خرچ خود کتابت کر کے کوئی خدمت کر کے پورا کیا ہے۔ انہوں نے سرکاری خزانے کو ذاتی دولت نہیں سمجھا وہ اکانٹیشنل رہے۔ بلاشبہ کچھ بری مثالیں بھی ہیں لیکن ان بادشاہوں میں وہ مثالیں بھی ہیں۔ اور ایسی مثال دنیا کی کسی دوسری تہذیب اور تاریخ میں نہیں ملتی اس پس منظر میں جناب والا! جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تین سال کے جمہوری دور میں آدھرا بل لا رہے ہیں اس مقصد سے کہ ہماری تنخواہوں ہماری مراعات ہماری سہولتوں میں اضافہ ہو تو میں شرم غسوس کرتا ہوں۔ کاش وزیر عدل نے یہ ترمیم نیشنل اسمبلی میں رکھی ہوتی کاش کہ نیشنل اسمبلی نے اسے reject کر دیا ہوتا۔ اور اگر وہ نہ کر سکے تو اس ایوان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس ترمیم کو مسترد کر دے اور قوم کے سامنے یہ مثال پیش کرے کہ جولائی ۶۸ء میں جو بھی ترمیم کر دی گئی تھیں۔ اس کی بنا پر جو کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ وہ ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ بہت کافی ہے۔

[Prof. Khurshid Ahmed]

جناب والا! میں پر زور الفاظ میں آپ سے درخواست کروں گا۔ وزیر عدول سے درخواست کروں گا اور اس ایوان کے ہر رکن سے درخواست کروں گا۔ کہ پارٹی کی نقطہ نظر سے بلند ہو کر صرف پاکستان، اسلام اور اس قوم کی خدمت کے جذبے کے نقطہ نظر سے اس مسئلے پر غور کیجیے۔ کوئی جسٹیفیکیشن اس بات کی نہیں ہے کہ آج جب اس ملک میں ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق تیس فیصد آبادی پاورٹی لائن کے نیچے ہے جنہیں دو وقت کی روزی کھل کر میسر نہیں آ رہی inflation کا ریٹ اس وقت دس اور پندرہ فی صدی ہے اب تک اعداد و شمار آئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے اور جس انداز میں قرضے لیے گئے ہیں اور deficit financing کی گئی ہے اس سے خطرہ ہے کہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ ان حالات میں قوم کو تو آپ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں بینشن والوں کو آپ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو لوگ بیٹے سہارا ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اپنے لیے الاؤنسز بڑھانے پر مقرر ہیں میں سمجھتا ہوں بڑی بری مثال ہے۔ جو ہم قائم کریں گے اس لیے میں پوری دلسوزی درد مندی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر دوبارہ غور کیا جائے۔ اور اس بل کو واپس لیا جائے۔ شکریہ!

جناب ڈپٹی سپیکر! شکریہ! جناب عبدالرحیم میر دادخیل۔

جناب عبدالرحیم میر دادخیل! شکریہ جناب سپیکر! میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے

قائد محترم نے جو تجاویز دی ہیں اور جس انداز میں تقریر کی ہے۔ میں اسی کی حمایت کرتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ جس طرح میں نے کل پرسوں

کے اجلاس میں بھی کہا کہ ہمیں ایک مثالی پارلیمنٹ بنانی چاہیے تاکہ قوم ان منتخب نمائندوں پر فخر کر سکے کہ واقعی یہ لوگ ہمارے حقیقی نمائندے تھے اور انہوں نے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے مراعات نہیں مانگیں بلکہ ان غریب عوام اور اس قوم کے لیے مراعات کے لیے دن رات اس پارلیمنٹ میں لڑتے رہے تو اس وقت اور آئندہ بھی پورا اس ملک میں جمہوریت آگے بڑھے گی۔ اور یہ جمہوریت پروان چڑھے گی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب خود یہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے اراکین اگر اس طرح سے ضمیر کی منڈی میں ایک بہت بڑے سوداگر کی طرح آگے بڑھیں اور وہ بولیاں لگائیں اور ایک دوسرے سے پھر وہ سبقت حاصل کریں کہ آپ کی کتنی قیمت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے مقابلے میں پھر دوسرا آتا ہے کہ اگر یہ دس لاکھ دیتا ہے تو کیا میں کسی سے کم ہوں میں بیس لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں کیا اس طرح یہ جمہوریت آگے بڑھے گی؟ لاجالہ پھر یہ جمہوریت نہیں ہوگی اور اس ملک میں پھر یہ جمہوریت آگے نہیں بڑھے گی بلکہ اس ملک میں پھر فوجی ٹولہ برسر اقتدار آئے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لیے مراعات حاصل نہ کریں بلکہ جس طرح صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے تین صحابی پیاس سے وفات پاتے ہیں لیکن پہلا یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا پڑوسی ہے اس کو پہلے پانی پلاؤ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں اس دوسرے ساتھی کو پلاؤ اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے تیسرے ساتھی کو پلاؤ یہ زیادہ مستحق ہے۔ لہذا یہاں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے اور ایسے نظام زندگی کی ضرورت ہے جس سے پورے ملک میں ہم ایک مایہ ناز کردار ادا کر سکیں اور ہم خدا کے

[Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel]

سامنے سرخرو ہوں، دنیا میں اگر صحیح کام کر کے تو قوم و ملک کے لئے ہو گا۔

تقریباً یہ دس ہزار روپیہ ہے، اگر پورے الاؤنسز کو ملایا جائے جو وہ دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہو گا۔ کیا اسی کو مساوات کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں مساوات بندگی کی ضرورت نہیں ہے مساوات محدودی سطح اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو جناب! اگر ان اراکین پارلیمنٹ نے درخواستیں دی ہوں یا اپنے پارلیمانی گروپ میں یہ شکایتیں کی ہوں تو ان پر گرفت کیوں نہیں کی گئی کہ جناب آپ اپنے لئے الاؤنسز تو مانگتے ہیں تو کیا آپ جو بیس بیس لاکھ روپیہ دس دس لاکھ روپے وہاں بولیاں دیتے ہیں وہاں دینے کے لئے تیار ہیں۔ تو کیا آپ اپنے اس نان شینہ پر گزارہ نہیں کر سکتے کیا اس وقت ان کو یہ جواب نہیں دیا جاسکتا۔

جناب والا! میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قوم کا پیسہ ہے اور اس طرح ان الاؤنسز کے زیادہ سے زیادہ اضافے سے پورے ملک میں ایک قسم کا شوٹ کا بازار گرم ہو گا۔ اور اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہو گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں بلکہ اس بل کو واپس لے لیں تو اس میں آپ کی خیریت ہو گی۔ ۱۹۹۰ میں آپ پھر قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی اور پھر قوم حق بجانب ہو گی۔ یہ کہنے میں کہ آپ نے تو اپنے لئے مراعات مانگیں۔ اپنے لئے سہولتیں مانگیں لیکن ہمارے لئے کیا کیا اس کی دو وجوہات ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ جون کے بجٹ میں قوم کو بڑے عذاب سے دوچار کرنا پڑے گا منہگائی کی شکل میں ہر چیز منہگی ہو جائے گی اور ہر چیز قوم کے لئے بڑی

نقصان دہ ہو گی اس لئے یہ پہلے سے پارلیمنٹ کے اراکین کو ان انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو کم سے کم گریڈ ہے اس کم سے کم گریڈ والے شخص کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی جائیں جبکہ یہ قوم اسی کے بل بوتے پر چلتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بل پر اتنا اصرار نہ کیا جائے اور اس کو واپس لے لیا جائے شکوہ!

جناب برہان الدین خان: جناب چیئرمین صاحب! میں مشکور ہوں کہ جناب! نے مجھے موقع دیا۔ جناب عالی! میں نے اسی سینٹ میں ایک دفعہ پہلے بھی ایسے بل کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے زیادہ وقت چھٹیاں کاٹتے ہیں اور پھر ادھر کورم بھی پورا نہیں ہوتا ہے کبھی جی ہم اس پیسے کو جو ہم کو ملتا ہے۔ حلال نہیں کر سکے ہیں۔ آج تک ہم نے اسلامی قانون پاس نہیں کیے ہیں۔ لہذا یہ جو آمدنی اضافہ کیا ہے یہ قوم کے اوپر ظلم ہے روزانہ جب کبھی یہ بجٹ بڑھاتے ہیں جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں یہ ہم ڈیفینس کے لئے کر رہے ہیں لیکن جب یہ ٹیکس لگ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف بڑے بڑے افسروں کی تنخواہیں بڑھانے کے کام آتے ہیں لہذا میں یہ پر زور عرض کروں گا اور میں پرنسپلر خورد شید کا احترام کرتا ہوں کہ جن الفاظ کا انہوں نے اظہار کیا میں پر زور الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بل واپس لینا چاہیے۔ اور اس کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ اور قوم کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، خدا تعالیٰ

[Mujahid Burhan-ud-Din Khan]

کے سامنے بھی ہم جوابدہ ہیں۔ دوسری دفعہ جب بجٹ آئے گا۔ جیسا کہ میرے دوست نے فرمایا تو اور بھی قیمتیں چڑھ جائیں گی غریبوں کے ادھر اس کا بوجھ ہو گا تو لہذا موٹے موٹے لوگوں کو اور موٹا بنانے کے لئے اگر یہ حکومت بنی رہے تو خدا خیر کرے

مگر ہمیں مکتب وہیں ملا
کارطان تمام خواہد شد

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ جی ! قاضی عبداللطیف۔
قاضی عبداللطیف : جناب چیئرمین ! میں اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں اس تناسب کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں غربت کس نہج پر چل رہی ہے اور آپ کے ریکارڈ میں یہ بات ہے کہ لاکھوں غریب اور لاکھوں تعلیم یافتہ بیروزگار ہیں اگر ان کے درمیان تناسب قائم نہ کیا گیا تو پھر میں گزارش کروں گا کہ

غلام گرسنہ دیدی کہ بے درید آسز

قیمتیں خواجہ کہ رنگین زخون ما بو داست

کبھی ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی کچھ غیر فطری انقلاب اسی بنیاد پر کھڑا ہو کہ کسی کو تو نان شبینہ بھی نہ ملے اور کسی کے ہاں ان کے کتے بھی بن سکن دیرہ کھائیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بل کیٹی کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس میں اصلاح کر کے اور تناسب کو دیکھ کر پھر دوبارہ اس کو یہاں ایوان میں لائے۔ بس اتنی مختصر سی گزارش ہے

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ بھر دار خضر حیات خان۔

سردار خضر حیات خال - جناب چیئرمین! بہت بہت شکریہ! آپ نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا ہے کہ میں بھی اس ایوان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر سکوں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے سامنے صرف ایک مطمح نظر ہونا چاہیے کہ جو بھی تازن ہم پاس کرتے ہیں یا پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا عوام میں اثر کیا ہو گا اور عوام کی بہتری کے لیے ہم اس میں کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قانون سے ہم عوام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں بلکہ عوام پر زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں جو اس وقت معاشی اور اقتصادی صورتحال اس ملک کی ہے اس کے پیش نظر کیا پارلیمنٹ کے ممبران کی جو یہ تنخواہ یا الاؤنسز وغیرہ ہیں بڑھنے چاہیے یا نہیں۔ اقتصادی طور پر یا معاشی طور پر کیا یہ مناسب رہے گا اور عوام پر اس کا کیا اثر ہو گا یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ عوام ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور قوم دیکھ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ عوام کی خدمت کے لیے یا اسلام کی خدمت کے لیے یا اسلام کے cause کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کام کریں اپنے ہی مشاہرے اگر بڑھاتے گئے۔ تو اس سے عوام پر کیا اثر ہو گا تو میری بھی یہی استدعا ہو گی کہ ان حالات میں مزید غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے آیا ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں یا عوام کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں میری یہ گزارش ہو گی کہ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس وقت ملک کے حالات اس کے متقاضی ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ ملک اور قوم کی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں اگر یہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہے۔ اور اس سے عوام کو کوئی

[Sardar Khizar Hayat Khan]

فائدہ پہنچ سکتا ہے تو تب تو میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر یہ ملک، قوم اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے تو یہ بری بات ہے اس لئے حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ آیا اس سے ملک اور عوام کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے یا اس سے عوام کو اور فرق پڑے گا پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ پہلے فوجی تھے وہ اپنی ہر چیز بڑھاتے گئے اب اگر مہران یا رنجیت بڑھاتے گئے تو اس سے برا اثر پڑے گا اس لئے میں استدعا کروں گا کہ اس پر مزید غور ہونا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

مولانا گوشر نیازی، قیاب والا اس حرف اب تک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست سردار حفص حیات خان نے بڑی اچھی روایت قائم کی ہے اگرچہ وہ پارٹی ان پادر سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اظہار خیال کیا ہے مجھے اپنے دوسرے ناضل الاکین سے بھی یہی توقع ہے وہ اس موقع پر اپنے عہدید کے مطابق اظہار خیال کریں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین؛ شکریہ! جناب شاد محمد خان صاحب۔

جناب شاد محمد خان؛ جناب چیئرمین شکریہ! اس وقت تک جو تقاریر

ہوئی ہیں وہ ایسے اصحاب نے کی ہیں جن کا قرعہ نہیں نکلا ہے لہذا ان کی دلچسپی کوئی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کروں گا صرف اخبار کی ذہانت بننے کے لئے اور پروسپیکنڈے کے لئے اس جائزہ چیز کی مخالفت کرنا ٹھیک نہیں کیا وہ پارٹی جو اپنے آپ کو زیادہ جمہوری اور اسلامی کہتی ہے۔ اس کے سارے Workers Paid نہیں ہیں کیا ان کے

سارے عہدیدار Paid نہیں ہیں اور ان کی ادائیگی پارٹی فنڈز سے نہیں ہوتی یا ان کی خدمت نہیں ہوتی لہذا، باقی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مصداق ایسی باتیں کرنا جس سے ہمیں ہمارا جائزہ حق ملے اور ہم یہ کام دل چسپی سے نہ کر سکیں غلط ہوگا حکومت کا یہ اقدام اس لیے مناسب ہو گا کہ ان ممبران کو ہر قسم کی سہولت دی جائے لہذا اس بل کو پاس کیا جائے۔

پروفیسر خورشید احمد۔ جناب چیئرمین! قبل اس کے کہ وزیر عدل کچھ فرمائیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی پسند نہیں کرتا تھا کہ اس قسم کی بات کہوں لیکن شاد محمد خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے۔ اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ بات کروں جہاں تک میرا تعلق ہے بحیثیت وزیر میں نے تنخواہ کا ایک پیسہ تک نہیں لیا بحیثیت سینیٹر پہلے دن میں نے چیئرمین صاحب کو لکھا کہ میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گا۔ اور میں نے کوئی تنخواہ draw نہیں کی تقاضی حسین احمد صاحب نے سینیٹ سے کوئی تنخواہ draw نہیں کی ہم نے یہ سوچا کیا کہ وہ تمام اراکین سینیٹ جو فورڈ کر سکتے ہیں۔ جو بھی الاؤنس ان کو مل رہے ہیں وہ سارے کا سارا ایک ویلفیئر فنڈ بنے اور ہمارے سینیٹ کا وہ سٹاف جو گریڈ سولہ سے کم ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے بد قسمتی سے چیئرمین سینیٹ کی پوری کوشش کے باوجود میری کوشش کے باوجود وزارت خزانہ اس پر تیار نہیں ہوئی ورنہ ہم نے یہ سوچا کیا۔ ہم یہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں اور الحمد للہ ہم نے یہ مثال قائم کی۔ رہا معاملہ جماعت کا تو میں آپ

[Prof. Khurshid Ahmed]

سے کہنا چاہتا ہوں - جماعت اسلامی میں تمام افراد اپنی جیب سے خرچ کر کے کام کرتے ہیں ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں اور وہ افراد جو قربانی دے کر ہمہ وقت کارکن بنتے ہیں ان کا تعداد بے حد کم ہے اور ان کو صرف ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے - ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہزار ہا ہمارے کارکن کام کرتے ہیں حتیٰ کہ سارا خرچ بھی اپنی جیب سے کرتے ہیں اگر آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے تو حقائق کا علم حاصل کیجئے - چھٹی نہ پھینکیے - شکریہ -

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ ! جناب عبدالرحیم

میر داد خیل صاحب -

جناب عبدالرحیم میر داد خیل : جناب چیئرمین صاحب ! جس طرح فاضل رکن نے بتایا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کا قرضہ انڈازی میں نام نہیں نکلا وہ یہ کہتے ہیں اقتدار آئی جانی چیز ہے - اس سے پہلے کئی حکومتیں بدلی ہیں اور اللہ اللہ وہ وقت دور نہیں جب اس ملک میں صحیح اسلامی انقلاب آئے گا تو پھر اللہ اللہ ایک اچھی ستھری جمہوریت آئے گی اور اس کے اچھے نمائندے آئیں گے اور جب اچھے نمائندے آئیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو گا - اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان میں ایک واحد غریب شخص ہوں بخدا جب میں سینٹ کا الیکشن لڑا تو میں نے دو ہزار روپے ضمانت کے لیے قرضہ حسنہ لے کر الیکشن لڑا ہے میں نے یہ کام کیا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے میں نے ضمیر فریضی نہیں کیا - میں نے

نمیر کی منڈی میں اپنا سودا نہیں کیا - غریب ہوں تو پھر میں نے مثال بھی قائم کی ہے آپ ہمیں یہ طعنہ نہ دیں - عزت اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے لیکن ہم نے اس کو اس طرح خوش اسلوبی سے نبھایا ہے اور میں کسی لالچ میں نہیں آیا ہوں آج تک میں نے ۵۰ پیسے کی دوائی تک نہیں لی ہے جب کہ یہاں کے کورڈ پیٹروں نے جعلی بل بنا کر ہزاروں روپے لیئے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے میں نے اپنا ٹیلی فون نہیں لیا اور جو بنیادی سہولتیں انسان کو ملنی چاہئیں وہ بھی میں نے نہیں لی ہیں سوائے اس کے کہ جو مجھے معاوضہ ملتا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا اگر میرا کچھ گزارا ہوتا تو سبجا میں اس سے بھی انکار کرتا - لہذا یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ تین سال کے لیے چلا گیا اور اللہ وہ وقت دور نہیں جب اس ملک میں سبز انقلاب آئے گا تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ جی، جناب وسیم سجاد صاحب،
جناب وسیم سجاد :

جناب والا ! ایک منتخب ایوان میں منتخب نمائندے عوام اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی خدمت کر سکیں - بھرپور طریقے سے خدمت کر سکیں اور اس خدمت کے لیے انہیں چند بنیادی سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے انصاف کا تقاضا اور اسلام کے اصول بھی یہی ہیں کہ جن اصحاب کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں انہیں کم از کم وہ بنیادی سہولتیں میسر کی جا سکیں تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر اور اچھے طریقے سے کر سکیں یہاں پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ غالباً ممبرز کی تنخواہوں میں بہت زیادہ

[Mr. Wasim Sajjad]

اضافہ کیا جا رہا ہے جناب والا! آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹ کی تنخواہ غالباً ۱۷ گریڈ کے افسر سے کم ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھیں انگلستان میں آپ دیکھیں ۲۰/۲۲ ہزار پونڈ ان کی سالانہ تنخواہ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں انہیں مفت رہائش کی سہولت ہوتی ہے۔ ٹیلی فون مفت ہوتا ہے اور دیگر امعات بہت سی ہوتی ہیں لیکن ہمارا ملک ایک فریب ملک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ان اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے لہذا میں واضح طور پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ممبر اپنی تنخواہوں کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم کیا بڑھا رہے ہیں۔ جناب والا! اس وقت ٹیلی فون الاؤنس پانچ سو روپیہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایک ممبر نیشنل اسمبلی ایک ممبر سینیٹ پانچ سو روپے سے اپنا ٹیلی فون چلا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی پاکستان میں مجھے بتا دے جو پانچ سو روپے سے اپنا ٹیلی فون چلا سکتا ہو۔ ایک ایک دو دو کالیں بھی اگر روز ہوں تو پانچ سو روپے سے کوئی ٹیلی فون پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ چہ جائیکہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے ممبر کا ٹیلی فون ہو جس کو یہاں پر مہینوں گزارنے پڑتے ہیں اپنے علاقے سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے حکومت سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی شکایات حکام کو پہنچانی ہوتی ہیں ان شکایات کا ازالہ وہ کس طرح کرے گا اگر اس کو ٹیلی فون کی سہولت کے لیے صرف پانچ سو روپے دیئے جائیں۔

جناب والا! حقیقت پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ گو تنخواہوں میں اضافہ

کا ان کا حق بنتا ہے لیکن ان کو نہیں بڑھایا جائے گا کیونکہ ہم بڑھانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں جناب آفس الاؤنس بڑھا رہے ہیں جتنا آفس الاؤنس بڑھا رہے ہیں اس سے غالباً وہ دو چڑاسی رکھ سکے گا جناب والا! کاش ہم ایسی پوزیشن میں ہوتے کہ ہم ان کو ایسی سہولتیں دے سکتے کہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکیں اور اپنے عوام کی بھرپور خدمت کر سکیں یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد محض اتنا ہے کم از کم ممبروں کو اتنی سہولت دے سکیں کہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں ہم اس صورتحال میں نہیں ہیں کہ ہم ان کو پوری سہولتیں دے سکیں جو دنیا میں ان اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو دی جاتی ہیں۔ امریکہ میں جناب والا! ایک ممبر کانگریس اور ممبر سینٹ کو ملک میں جہاں بھی جائے ملک سے باہر جہاں بھی جائے۔ اس کو مفت سفر کی سہولت ہوتی ہے اس کے لیے شافرز ہوتے ہیں۔ انگلستان میں بھی ان کو سہولت دی جاتی ہے تاکہ وہ شافرز رکھ سکیں ان کی تنخواہ حکومت دیتی ہے ہم نہیں کر سکتے۔ جناب والا! میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حیثیت دے اس ملک کو اتنی ترقی دے کہ ان منتخب ایوانوں میں آنے والے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور بھرپور خدمت کر سکیں کاش کہ ایسا وقت آئے میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا وقت آئے لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو ان سہولتوں سے بھی محروم کر دیں جو ضروریات ان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں۔ لہذا جناب والا! ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تنخواہ میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا۔ صرف ٹیلی فون اور آفس الاؤنس بڑھا رہا ہے اور اس کا مقصد

[Mr. Wasim Sajjad]

صرف یہ ہے کہ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ الاؤنس ان کو دیں جن سے کم از کم وہ ٹیل فون کا بل ادا کر سکیں اپنے دفتر کا کرایہ اور چڑاسی کو تنخواہ دے سکیں۔ اس سے شہر میں وہ کرائے پر دفتر بھی نہیں لے سکے گا لیکن کم از کم ایک چڑاسی اور Sweeper رکھ سکے گا۔ اتنی سہولت دی جا رہی ہے اور اس پر بھی اگر ممبروں کو اعتراض ہے تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے انہیں حق ہے لیکن کم از کم انہیں realistic ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے ذرائع ایسے ہوں کہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو لیکن جناب والا! یہاں پر جو لوگ آتے ہیں۔ اکثریت میں جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے غریبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر ایک ممبر امرار کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو تنخواہ کو donate بھی کر دیتے ہوں گے۔ لیکن جناب والا! میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اکثریت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اکثریت کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا ہم کوئی ایسی بے جا چیز کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو وہ چیز نہیں دے رہے ہیں جو ان کا حق ہے، کیا ہم ٹیل فون اور آفس الاؤنس بڑھا کر کوئی اتنی زیادتی کر رہے ہیں، تنخواہ تو جناب وہی ہے جناب ایک سترہ گریڈ کے افسر کی تنخواہ آج ممبرنیشن اسمبلی کی تنخواہ سے زیادہ ہے۔ جناب والا! میں ان معروضات کو پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس بل کو پاس کیا جائے۔

مجاہد برمان الدین خاں : پوائنٹ آف آرڈر، جناب والا! میں شاد محمد خان کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو بات کہی، میں ان کی یاد دہانی کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ آج سے چھ ماہ پہلے ریکارڈ پر بھی ہو گا جب میں نے اس ہاؤس میں کہا تھا کہ ہم یہ تنخواہ حلال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نہ ادھر کورم پورا ہوتا ہے اور نہ وقت پر آتے ہیں بلکہ ہمیشہ چھٹیاں ہوتی ہیں، اگر یہ میں نے نہ کہا ہو تو میں اپنا سب کچھ جناب شاد محمد خان صاحب کو دے دوں گا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شہزادہ صاحب، یہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں بننا ہے۔ اب ہاؤس کے سامنے کونسلین ہے۔

The motion moved is :

“That the Bill further to amend the Members of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974. [The Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1988] as passed by the National Assembly, be taken into consideration”.

(The motion was carried)

جناب ڈپٹی چیئرمین : اب میری ہاؤس سے گزارش ہے کہ ایک تحریک تو مولانا کوثر نیازی کا ہے جو ایڈمٹ ہو چکی ہے اور اس پر بحث جاری ہے اور ایک کال انٹیشن نوٹس ہے

ایک معزز رکن : اس بل کو پاس کر لیں ۔
 جناب ڈپٹی چیئرمین : اس میں amendment کے لئے دو دن کا ٹائم تو دینا پڑے گا ۔

مولانا کوثر نیازی : جناب والا! میری تحریک التوا جس پر بحث ہونی ہے، اگر اسے جمعرات تک کے لئے ملتوی کر دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : تو پھر وسیم صاحب Call attention notice لے لیتے ہیں ۔

جناب وسیم سجاد : متعلقہ سیٹ منسٹر جو ہیں وہ یہاں ہو گئے ہیں اور قاضی صاحب کو اچانک کراچی جانا پڑ گیا ہے ۔ مہربانی کر کے اگر جمعرات تک کے لئے ملتوی کر دیا جائے تو مہربانی ہو گی ۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : ٹھیک ہے، شیخ صاحب، اسے بھی جمعرات تک کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے ۔ باقی ایجنڈے کو بھی جمعرات تک کے لئے defer کرتے ہیں ۔ اب اجلاس ۱۰ مارچ بروز جمعرات ساڑھے نو بجے تک کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے ۔

[The House adjourned to meet again at 9.30 of the Clock in the morning on Thursday, March 10, 1988.]